


# اسلامی تاریخ و تہذیب

باری علیگ مُرخ



مکتبہ کاروان

پچھری روڈ ○ لاہور

جملہ حقوق محفوظ

۱۹۷۶ء ۹۰۹

ب ۱۸

۲ - ک ۲۷۵۴۵

ناشر: چوہدری عبد الجمید ایم کے

طبع: مسعود پر نظرز، لاہور

تعداد: ایک ہزار

کتابت: انور جیمن تلیز سید نفیس رقم



# فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۹	عرب قبل اسلام	پہلا باب
۲۳	اسلام کا ظہور	دوسرا باب
۲۷	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	تمیرا باب
۵۷	خلافت راشدہ	چوتھا باب
۷۲	کوفہ اور دمشق	پانچواں باب
۹۰	بنو امیہ کا زوال	چھٹا باب
۹۵	دورِ حبسا یہ	ساتواں باب
۱۰۵	آل سلجوق	آٹھواں باب
۱۰۹	صلیبی جنگیں	نوواں باب
۱۱۸	عباسی عہد میں علمی سرگرمیاں	وسواں باب
۱۲۵	بغداد کی تباہی	گیارہواں باب
۱۲۸	عربوں کا ہی پانسیہ	پارہواں باب
۱۳۰	عثمانی سلطنت کا عروج	تیرہواں باب
۱۵۸	سلطانیں فرمی	چودھواں باب
۱۶۹	تیمور	پندرہواں باب



# حروفِ آغاز

باری علیگ مر جو مرحوم ادیب، صحافی، مورخ، تقادار کتنی زبانوں کے عالم تھے۔ انہوں نے اس وقت لکھنا شروع کیا جب ہمارے یہاں ادب اور صحافت کے راستے الگ نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بحیثیت ادیب زیادہ شہرت حاصل کی۔ اگرچہ انہوں نے اپنی تصانیف و مکتبی کی تحریک کی تاریخ کا مطالعہ اور اعلاب فرانش کی بلند پایہ اور مستند حیثیت کے باعث بطور مورخ بھی اپنا لوٹا منوالیا۔ مگر بحیثیت مورخ ان کی مکمل شخصیت بوجوہ منظرِ عام پر نہ آسکی۔ ناسازگار حالات کے باعث وہ آخری دم تک قلم کی مزدوری کرتے رہے اور خارجہ ارجمند میں ادھر ادھر گھوستے رہے انہوں نے تاریخ عالم کا بہت گرا مطالعہ کیا تھا اور فلسفہ تاریخ کو بہت اچھی طرح سمجھا تھا۔ موت نے انہیں اتنی مدد نہ دی کہ وہ اپنے مطالعہ تاریخ کو منظم اور مربوط صورت میں منظرِ عام پر لا سکتے حالانکہ وہ اپنی اس کاوش کو کارنامہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عالمی تاریخ کے طویل مطالعہ کے بعد تاریخ و تہذیب کے زیر عنوان ہر دور کی عالمی تاریخ و تہذیب کا جامع تنقیدی جائز پیش کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور بہت سا کام مکمل کر لیا تھا۔ مگر فتح عرب میں ان کی بے وقت موت سے نہ صرف پیشہ پر مکمل کرنے پہنچ سکا۔ بلکہ مکمل نہ کام کا بہت سا

حصہ بھی ضائع ہو گیا۔ مرحوم کے لا احتیان عرصے تک شدتِ غم سے نہ ہال ہے اور مرحوم کا ذخیرہ کتب اور کئی مسودات ان کے وہنؤں اور تعلق داروں میں تقسیم ہو گئے افرانفری میں ”تاریخ و تہذیب“ کے مسودہ کا پیشہ رکھتے بھی ضائع ہو گیا۔ مسودہ کا درمیانی حصہ بعنوان ”اسلامی تاریخ و تہذیب“ کسی نہ کسی طرح محفوظ رہا مگر غیر مربوط صورت میں۔

اسے اگرچہ ٹڑپی محنت اور احتیاط سے مربوط کیا گیا ہے۔ تاہم اگر قارئین ربط میں کوئی خامی محسوس کریں تو اسے باری علیگ مرحوم کی نہیں میری کوتاہی سمجھا جاتے۔

باری علیگ مرحوم کو ان کے ہم عصر و میں نے اشتراکی ادب قرار دیا تھا۔ اس کے ایک بدبب تریخ تھا کہ مرحوم نے بطور حساس ادب اور مورخ کے سامراجی طاقتوں کے ہاتھوں وسیع پیمانے پر قتل و غارت اور لوٹ کھسپٹ کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ بر صغیر کے استھان کا تو انہوں نے مشاہدہ بھی کیا تھا۔ تاریخ دان کے طور پر انہوں نے قوموں کے زوال کے اسباب کو بھی اچھی طرح سمجھا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں روز میں اس نظام کو قائم ہوتے دیکھا، جس نے اپنی کوتاہیوں سے قطع نظر کے سامراجیت کو لکھا رکھا اور اس سے پیدا ہونے والی گوناگون لعنتوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس بیانے مروجہ اعدماً لوح میں ان کا انداز فکر ترقی پسندانہ تھا۔ مگر اصل میں ان کی یہ ترقی پسند میں تھریخ فخر کے حالات و واقعات اور تاریخ کے تنقید می اور تجزیباتی تجارتی سے عبارت تھی۔ چونکہ ان کا اصل کارنامہ دستبردار زمانہ کا نذر ہو گیا۔ اس بیانے اصل باری علیگ بھی نظروں سے اوچھل رہے۔ اسلامی تاریخ و تہذیب کے مطالعہ سے اصل باری علیگ کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ انقلاب فرانس اور کمپنی کی حکومت وغیرہ کے مطالعہ سے محسوس ہوتا ہے کہ باری علیگ تاریخ کی مادی تعبیر و توجیہ کے قابل ہیں۔ لیکن تاریخ کے گھر سے مطالعہ سے ان کے نقطہ نظر میں حقیقتی تبدیلی آگئی تھی۔

ان کے نزدیک اسلام تاریخ عالم کا ایک حریت انگلیز اور اہم ترین باب ہے۔ اسلام نے نہ صرف عربوں کی کایا پٹ دی بلکہ اس نے نوع انسانی پر ہبہ بڑا انسان کیا۔ اسلام نے علم کو عوام کی ملکیت بنادیا۔ اس نے انسان اور خدا میں اہ راست رشته قائم کیا ہا اسلام نے عوام کو ذہنی اور اخلاقی پستی سے مکال کرنہیں تہذیب و تمدن کی رفتاروں تک پہنچا دیا۔ چنانچہ ان کے نزدیک مسلمانوں کی فتوحات لے محركات مادی نہیں تھے بلکہ ان کے سامنے بلند اور پاکیزہ نصب العین تھا۔

گی فتوحات نے ایک ممتاز، نمایاں اور بہتر تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ اسلامی سپہسالار شیخ بن نافع نے جب اپنا گھوڑا بحر اوقیانوس میں ڈال دیا تھا اور آسمان کی طرف اٹھا تے ہوتے کہا تھا کہ آئے خداوند اگر یہ مندرجہ حاصل نہ ہوتا تو میں اس سے بھی دور دراز ملکوں میں تیرے نام کی عظمت پھیلاتا۔ تو اس کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی۔

فتوات تاتاریوں نے بھی کی تھیں۔ مگر ان کی اور مسلمانوں کی فتوحات کے مقاصد بی زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسلمانوں نے دنیا کو بہتر اور نتیٰ تہذیب دینے کے ساتھ ماتھ علم سائنس اور فن کی روشنی بھی دی۔ مسلمان منفردوں کی تابوں نے یورپ میں اس سی علی سرگرمی کو شروع کیا جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ مگر تاتاریوں کی توات نے دنیا کو کیا دیا ہے امنوں نے مغربی ایشیا کی شاداب وادیوں کو پر انوں میں بدل دیا۔ فرغانہ، خوجند۔ بخارا سمیر قند، ہرات رے اور کتبی دریے نہ تباہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے ہی پانیہ فتح کیا تھا تو اس کی کایا پٹ دی تھی۔ لوگوں کی زندگیاں بدل دی تھیں۔ ملک میں علم و فضل کے دریا بہادریتے تھے۔ مگر یہی اپنا نیہ مسلمانوں سے چھیننے والوں کے پیش نظر کوئی قابل فخر مقصد نہیں تھا۔ یہ نکہ نہوں نے عقل و دانش کے مشعل برداروں۔ تہذیب و تمدن کے معماروں علم و فن

کے سر پستوں اور صنعت و حرفت کے ماہروں کو آگ میں پھینک دیا۔ اور ”رشیدوں نے تہذیب کے اس قافلے کو لوٹ لیا، جس میں ابن ماجہ، ابن طفیل اور ابن رشد اپنی بغلوں میں فلسفے کی کتابیں دیتے ہوئے سفر کر چکے تھے۔“

مسلمانوں نے علم و حکمت، سائنس اور فن کی ترقی میں جو حصہ لیا، وہ ان کے نزدیک ان کی فوجی فتوحات سے کم اہم نہیں ہے۔ بغداد اور غزماطہ نے علمی اور تہذیبی ترقی میں جو حصہ لیا وہ تہذیب کے ارتقاب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ باری علیگ نے اسلامی عہد کی بعض تحریکوں کا جائزہ صرف ہوڑخ کی حیثیت سے نہیں لیا، بلکہ ان کو مفکر کی نظر سے جھی دیجتا ہے۔ مامون الرشید نے اعتراض کی جو تحریک چلا تی گئی وہ ان کے نزدیک صرف اس لیے غیرحسن نہیں کہ یہ تحریک خزان خرابہ پر مشتمل ہوتی گئی بلکہ اس لیے بھی قابل اعتراض ہے کہ یہ تحریک ہے آزاد خیالی کے نام سے چلا تی گئی ہے۔ آزاد خیالی کے پھلنے کا ایک حصہ بن گئی۔ اسی طرح وہ صلیبی جنگوں کا ذکر ایک ہوڑخ کی حیثیت سے کرتے ہیں مگر ایک مفکر اور تاریخ و تہذیب کے طالب علم کی حیثیت سے ان کے نزدیک آخری صلیبی جنگ کا آخر دن نتیجے پورپ کا پہلا دن ہے، اس لیے کہ ان جنگوں کے نتیجہ میں تھے بتاریکی میں ڈوبے ہوئے پورپ پر علم کا سورج بھی طلوع ہوا۔

ان اقتباسات اور اس پوری کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ باری علیگ کا اندازِ فکر اشتراکی نہیں، حقیقت پسندانہ، منطقی اور تجزیاتی ہے۔ چنانچہ اس مختص سی کتاب کے مطالعہ سے تاریخ عالم کے چیرت انگیز اور اہم ترین باب کو زیادہ صحیح طور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ چودہوی عباد الحمید شکریہ کے مستحق ہیں کمان کی وساطت باری علیگ مرحوم کی وفات کے ۱۲ سال بعد تاریخ و تہذیب کا ایک حصہ منتظر عام پر آ رہا۔

# دِسَائِرُ

۱

مولانا غلام رشاد مول

ل مرحوم ہماری علیگر کی شخصیت کی تعارف کی محتاج نہیں، انہوں نے عملی زندگی کے بال محل اپنے ایڈویشنل دوڑی میں ایسی شہرت حاصل کی جو اکثر اور بول کر پورا و درہ حیات کی زار چکنے کے بعد بھی کمتر ہی نصیب ہوتی ہے۔ مرحوم کو منتقلہ علم سے لگنی دیکھی گئی، لیکن عین حدائق میں اندازہ کر سکا ہوا، اور ہمارے لامطالعہ ہی ان کے لئے منتقلہ علم سے دیکھی کی اصل بنیاد تھا اور اپنے ہمی در اصل ان کی تحریر و نگارش اور فکر و نظر کا خاص موضوع تھی۔ میرا بھلپر قطعاً یہ نہیں کہ وہ مارکے پروپری بی کتابیں لکھنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے تاریخ کے مطالعے سے جو ان سے پہنچے لکھی جائیں گے انہوں نے تاریخ کے مطالعے سے جو بیانات حاصل کیے تھے، انہیں منتقلہ ششماہی اور پہرالیں میں پہنچ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ تمام اصحاب کو صحیع منزل کی طرف حرکت نہیں لائے کاؤز یہ بن جائیں۔

کتاب مرحوم کی قضا نہیں میں سے پہنچنے کی حکومت کو خاص اپیٹت حاصل ہے جو کتاب ہمارے وطن عربی میں ان گزناں میں بیکھنے والے ایک بہت ایکنونجے کے لیے اہتمام کی ایک مرثی دعوت و اسلامی مفہوم و نمہتی ایک کم سبب کے لیے اہتمام کی ایک مرثی دعوت میں جن سے بڑا نیں میں اشہد ضرورت تھی، جب پہنچنے کی بہت منتظر عام پر آئی تھی،

نیز تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے نوجوانان ملک و ملت کے لیے ایک عمدہ نونہ بھی تھی تاکہ آئندہ خدمتِ دین و انسانیت کے لیے کس انداز و اسلوب کی کتنا بہی تصنیف ہوئی چاہیں، مطلب یہ کہ یہی ضروری نہیں جو معلومات اب تک منتظر عام پر نہیں آئیں ان کے چہرے سے پرده ٹھا دیا جاتے اور خالی خلائے پُر کر دیتے جائیں۔ بلکہ کتنا بہی ایسے انداز میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی پڑھیں ان میں نئی روح پیدا ہو۔ ان کے خوابیدہ احساسات جاگ اٹھیں اور ان میں زبرد جوش عمل پیدا ہو جاتے جو رفتہ رفتہ اجنبی انتدار کے خلاف ایک ہمہ گیر طوفان کی شکل اختیار کر لے۔

مرحوم نے زندگی میں اور بھی کتنا بہی شائع کیں، ان کی اچانک وفات کے باعث ہم ایک پر جوش، مخلص، حقیقتِ ناس اور پختہ کار صاحبِ عقل کے افادات سے محروم ہو گئے۔

اب ان کی ایک تصنیف کا نامکمل مسودہ ملا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تاریخ عالم کے گھرے مطالعے کے بعد ایک منصوبہ تحریز کیا تھا، جس کے مطابق ”ڈہ تاریخ و تہذیب“ کے زیر عنوان ہر دور کی عالمی تاریخ و تہذیب کا حساب اتفاقی جائزہ پیش کرنا چاہتے تھے، افسوس کردست اجل نے پر منصوبہ مکمل نہ ہونے دیا، اس کا صرف ایک حصہ وہ مرتب فرماسکے۔

جو مسودہ گتابی شکل میں منتظر عام پر رہا ہے، اس میں اسلامی تاریخ کے مختلف دوروں کی داستان آگئی ہے، یہیں کم رسمی کے باعث پورا مسودہ نہ دیکھ سکا۔ کتاب طباعت کے آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی۔ نہ میرے لیے فوری صرف و نیتوں سے زیادہ فرحت نکالنا ممکن تھا اور طباعت کی تکمیل میں توقف کسی بھی اعتبار سے مناسب معلوم ہوتا تھا، میں پمشکل یہ چند


ستریں اصل کام کی سرسری تو پڑھ کے لیے لکھو سکا۔  
 میری دلی خواہش ہے کہ باری مرحوم کا یہ نقش جسے بہر حال نقش ناتام  
 ہی سمجھا جاسکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچے اور زیادہ سے زیادہ  
 دلوں میں جگہ پاتے۔ آمین! ثم آمين !!

مسلم ٹاؤن لاہور  
 ۱۹۴۷ء



## اعلاط

صفحہ	سطر	خلط	صحیح
۹	۷	ملک عرب	عرب ملک
۲۱	۱۲	فاسد ع با قوم	فاسد ع با تولد
۳۸	۱۶	بن عمر	بن عمیر
۳۹	آخری سطر	بنون فیر	بنون فیر
۶۶	۱	حج	حج
۷۵	۱	دو گوں نے	دو گوں سے
۸۸	۳	سنی	سننی
۱۰۸	۶	بہت	متعدد
۱۲۵	۶	تاماریوں	تاماریوں
۱۲۹	۳	ہر دہ شے جو	ہر دہ شے جو
۱۳۳	آخری سطر	جنوب	جنوب میں
۱۵۴	۱۹	مر کے	مر کے نے
۱۶۵	۱۴	ادا کرنا	ادا کرنا
۱۶۰	۱۱	نقش	تو کتا میں



## پہلا باب

# عرب قبل از اسلام

شکل و شاہدیت کے لحاظ سے ملک عرب ایک وسیع و عرض مسٹریل جزیرہ نما ہے جس کو عام الفاظ میں جزیرہ نما تے عرب کہا جاتا ہے۔ قومی اعتبار سے لفظ عرب کے معنے فصاحت اور زبان آوری کے آتے ہیں اور عرب اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اپنے آپ کو عرب اور دنیا کی تمام اقوام کو عجم کہ کر پہاڑا کرتے تھے۔ لہذا اس جزیرہ نما کا نام عرب پڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔

چند سورخین کی راستے میں اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ لفظ عرب دراصل عربت سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دشت و صحراء۔ چونکہ عرب ملک کا غالب حصہ دشت و صحراء پر مشتمل ہے لہذا اس اعتبار سے اس کا نام عرب پڑا۔

جزیرہ نما کے مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، مغرب میں بحر قلزم یا بحر احمر اور نہرویں، شمال میں عراق اور فلائم کے ملک اور جنوب میں بحر حرب یا بحر ہند ہے ملک حرب کا بیشتر حصہ ریاستان اور صحراء ہے۔ حدود تک ریت ہی ریت دکھانی دیتی ہے طول تقریباً پندرہ سو میل اور عرض چھ سو میل ہے۔ اس طرح مجموعی رقبہ تقریباً بارہ لاکھ مربع میل بتا ہے جس میں چار لاکھ مربع میل سے زائد رقبہ خالص ریاستانی اور غیر آباد

بچیرہ احمد کی طرف سے آنے والی ہوائیں اپنے ساتھ پانی لاتی ہیں۔ یہ ہوائیں عرب کے اندر دلی حصوں تک نہیں پہنچتیں۔ حجاز کے بعض حصوں میں بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش بزرگ پیدا کرتی ہے۔ شمالی حجاز میں کہیں کہیں خلستان ہیں۔ بڑے سے بڑے خلستان کا رقبہ دس مربع میل سے زیادہ نہیں۔ میں اور علیسویں زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے یہ علاقے سر بزا اور شاداب ہیں۔ میں کی راجدھانی صنعا سطح سمندر سے سات ہزار فٹ اوپر چلی ہے۔ صنعا، عرب کے صحت افزای اور خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے عرب کا ایک دریا بھی ایسا نہیں جو سارا سال بہنے کے بعد سمندر میں گرتا ہو۔ اس کے کسی دریا میں کشتی رانی نہیں ہو سکتی۔ حجاز میں کھجور کثرت سے ہوتی ہے۔ میں اور چند ایک خلستانوں میں گندم پیدا ہوتی ہے۔ جو کی بھی کاشت ہوتی ہے۔ میں میں چودھویں صد ہی علیسوی سے قبوہ کی کاشت جاری ہے۔ طائف میں چلوں اور بزرگوں کی کثرت ہے۔ عرب میں پیدا ہونے والے نباتات میں کھجور کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ عربوں کی معاشری زندگی میں کھجور ایک بہت بڑا جزو ہے (اب اس خطے میں تیل کی بدولت معاشری زندگی کا نقشہ بڑی حد تک بدل گیا ہے)

**آبادی کی قسم** عرب کے طبعی حالات نے عرب کی آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ بدومی اور شہرمی، بدومی، صحرائی زندگی کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ بدومی کے ماضی، حال اور مستقبل میں کیسانیت ہے۔ ہزار سال پہلے کا بدومی بیسویں صدی کے بدومی سے متاثر تھا ہے اور شاید بعد کا بدومی آج کے بدومی سے مختلف نہیں ہو گا۔ قدرت نے بدومی تمدن کو کیسانیت دے رکھی ہے۔ بدومی اونٹ اور کھجور اس صحرائی تمدن کی تکون کے اضلاع ہیں۔ بدومی سوسائٹی کی بناؤٹ کی بنیاد قبیلہ ہے۔ ہر خمیہ ایک کنبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ بہت سے خمیے ایک خاندان کی بناؤٹ التے ہیں۔ بہت سے خاندان مل کر ایک قبیلہ بنتا ہے۔ ایک قبیلہ کے لوگ

آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ مختلف عرب قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ عرب کے دو قبیلوں میں چالیس سال تک لڑائی ہوتی رہی۔ اسلام سے پہلے عربوں میں قبائلی لڑائیوں کا عام رواج تھا۔ غرب کے بڑے بڑے شاعروں نے ان قبائلی لڑائیوں کو اپنا موضوع بنایا۔ ان عرب شاعروں کا کلام آج بھی عربی ادب میں نمایاں درجہ رکھتا ہے ججاز اور نجد کے بدودوں کی تاریخ (اسلام سے پہلے) قبائلی جنگوں کی ایک طویل داستان ہے۔ یہ لڑائیاں بکریوں، بھیڑوں اور گھاس کے شکوں سے شروع ہوتی تھیں۔ ان لڑائیوں میں قبیلوں کے ہمادراپنی اپنی شجاعت کے جو ہر دکھاتے۔ قبائلی شاعر اپنے قبیلہ کی بھادری کے گیت لگاتا اور دوسرے فوجی کی مدد کرتا۔ ان لڑائیوں نے انتقام کوہمان نماز بدھی کی سوسائٹی کا ایک ستون بنادیا۔ ان لڑائیوں میں مرنے والوں کی یاد افسالوں اور شعروں کی صورت میں صدیوں تک باقی رہتی۔ اس قسم کی ایک لڑائی پانچویں صدی عیسوی کے اختتام پر بنو بکر اور بنو تغلب میں ہوتی یہ لڑائی چالیس سال تک ہوتی رہی۔ شہری عرب (حضرت مسیح) بدودوں کی طرح خانہ بدوش نہیں ہیں وہ بستیوں میں رہتے ہیں۔ شہری عرب گھبٹی بارٹی اور تجارت کرتے تھے۔ تجارت میں عربوں نے بڑا نام پیدا کر لیا تھا۔ اسلام سے صدیوں پہلے شہری عربوں کے ذریعہ تجارتی مال ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جاتا تھا۔ سمندری تجارت میں بھی ان عربوں کو بڑی مہارت حاصل ہوتی۔ وہ بحیرہ احمر سے بحیرہ چین تک کے تجارتی راستوں سے واقف تھے۔ مالا بارا اور تنبوبی ہندوستان کی بند رگا ہوں ہیں عربوں کی جھپوٹی چھوٹی بستیاں بھی تھیں۔ شہری عرب کے تجارتی ماحدوں نے اسے بدھی عرب سے محتوا راسا مختلف کر دیا تھا۔

**قدیم تاریخ** آبادی بدھی ہے جنوبی عرب کے طبعی حالات کے پیش نظر شمالی عرب (جاز اور نجد کی زیادہ بڑے شہر بسادیتے۔ جزیرہ نما تھے غرب کے مغربی کونے کے باشندے جنوبی سمندر کے

فُنیقی تھے۔ میسح سے ایک ہزار سال پہلے اس خطہ کے عرب تنذیب و تمدن میں نمایاں درجہ حاصل کر چکے تھے۔ وہ مصر، شام، عراق اور ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے تجارت میں طیارہ میں پیدا کیا۔ نویں صدی ق م سے دوسری صدی ق م تک جنوبی عرب میں بنی سبار کی ایک بڑی ریاست بھی اس ریاست کے دوسرے دور (۶۵ ق م - ۱۱۵ ق م) میں مارب اس کی راجدھانی تھی۔ مارب اپنے بندگی درجہ سے مشہور تھا۔ بنی سبار کی تاریخ کا یہ بہت شاندار دور تھا۔ بنی سبار کے زوال کے بعد جنوبی عرب کے حمیریوں کا دور شروع ہوا۔ حمیری اور سبائی ایک ہی نسل سے تھے۔ دونوں کی زبان بھی ایک ہی تھی۔ حمیری خاندان نے ظفر کو اپنی راجدھانی بنایا۔ موجودہ یہیم کے آس پاس اس حمیری راجدھانی کے آثار تک پانے جاتے ہیں۔ حمیری دور میں عربوں نے یمن اور حضرموت سے نکل کر جبشہ میں اپنی نوازابادی قائم کیں۔ اولیٰ تکے مشرقی ساحل پر عرب آباد ہو چکے تھے۔

پہلے حمیری خاندان کے عہد حکومت میں جنوب کے عربوں کی سمندری طاقت ختم ہو گئی۔ جب تک ان عربوں کے قبضہ میں بھرہ احمد کی تجارت بھی وہ بڑے خوشحال اور آسودہ تھے لیکن جب رومیوں نے انہیں بھرہ روم سے نکال دیا تو پھر خشکی کی راہ سے انہوں نے تجارت شروع کر دی۔ بھرہ ندی میں رومی جہازوں کی آمد سے جنوب کے عربوں کی سمندری تجارت کو سخت و حکما لگا۔ ۳۰۰ م ۳۴۰ سے ۸۰۰ م تک یمن جبشیوں کے قبضہ میں رہا۔ اس کے بعد حمیریوں نے پھر یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس دورے حمیری خاندان کے نوبادشاہوں کا حال تاریخ کے صفحات پر ثابت ہے۔ اسی عہد میں یمن میں یہودیت اور عیسیائیت داخل ہوئی۔ پھری صدی عیسوی کے حمیری بادشاہ نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس یہودی بادشاہ نے بخارا کے عیسیائیوں کا قبل عالم کیا تھا۔ اس پر جبشہ کے بادشاہ نے یہن پرچھہ ہائی کی۔ ایک مرتبہ یہن پر

جیشیوں کا پھر قبضہ (۵۲۵-۵۴۵) ہو گیا۔ جلسنی و اکسراستے نے اپنی نئی راجدہ مانی سنعامیں ایک بہت بڑا گرجا (القیس) بنوایا۔ القیس، مارب کے کھنڈوں کے مسائلہ سے تیار کروایا گیا تھا۔ آج اس گرجا کے بہت تھوڑے نشان ملتے ہیں۔ ابرہم نے اس گرجا کو شمالی عربوں کے مشرقی مرکز مکہ کے مقابلہ پر بنوایا تھا۔ شمالی عرب کے ایک قبائلی سردار نے اس گرجا کی توہین کی تھی اس پر ابرہم نے مکہ پر حملہ کیا۔ ابرہم کو شکست ہوئی تھی مگر ابرہم کی فوج میں چند ایک ہاتھی بھی تھے اس لیے عربوں کی تاریخ میں یہ حملہ عالم الفیل کہلاتا ہے (۷۰۷ء) ابرہم کے عہد میں مارب کا بندٹوٹ جانے سے میں کی زرعی حالت کو بہت نقصان پہنچا۔ عربی ادب میں بندٹوٹنے کے اس داقعہ کو بارہا درہا گیا ہے۔

میں کو جیشیوں سے آزاد کرانے کی قومی تحریک نے سیف کی رہنمائی میں کامیابی حاصل کی۔ سیف کی بہادری کی کہانیاں آج بھی دمشق، بغداد، بیروت اور قاہرہ کے قلعوں خازل میں بیان کی جاتی ہیں۔ سیف نے نوشریوں کی مدد سے میں کو جیشیوں کی غلامی سے نجات دلائی تھیں ایران نے بہت جلد میں کو اپنا ایک صوبہ بنالیا۔ میں کے پانچویں ایرانی گورنر نے ۶۲۸ء میں اسلام قبول کر لیا تھا۔

جنوبی عرب کی ریاستوں کے علاوہ اسلام سے پہلے شمالی عرب میں بھی عربوں کی کئی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ جنوبی ریاستوں کی طرح ان شمالی ریاستوں کی قوت کا انحصار بھی تھا۔ ان ریاستوں میں سے ایک پتراء (یونانیوں کا دیا ہوا نام) تھی۔ اس شہر کا موجودہ نام دادی موسے ہے۔ پتراء اس شاہراہ پر واقع تھا جو بحیرہ روم اور میں کو ملاتی تھی۔ پتراء نے حارت چہارم کے عہد (۹ قم۔ ۷۰۴ء) میں بہت ترقی کی۔ دوسری صدی عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹراجن نے پتراء کی عرب ریاست کو ایک رومی صوبے میں تبدیل کر دیا۔

پر اکے محل، قلعے اور بازار اپنی خوب صورتی کے لیے بہت مشہور تھے۔ مشرقی ہجوبی اور مغربی اطراف سے پترانا قابل تسبیح تھا۔ یہ دن اور وسطی عرب کے درمیان پڑا، ہی ایک ایسا مقام تھا جہاں پانی کی بہتانات تھی۔ سیاحوں کو محییرت کرنے کے لیے پر کے کھنڈ ر آج بھی مشرق اردن میں موجود ہیں۔

جب پاراخیوں نے عراق کو فتح کیا تو مغربی ایشیا کی کارروائی تجارت کے راستے بدلتگئے۔ اس تبدیلی نے صحرائے شام کی ایک سختستانی بستی پالمیرا کو ایک اہم تجارتی شہر بنادیا۔ پالمیرا ہونکہ پاراخیا اور روم کے درمیان واقع تھا۔ اس لیے وہ اپنی بی طرف پالیسی سے فائدہ اٹھا تاہم رہا۔ دوسری اور تیسرا صدی عیسوی میں یہ صحرائی راجدھانی اپنی دولت کی وجہ سے عالمگیر شہرت حاصل کر چکی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں پالمیرا رومنوں کے زیر اثر آچکا تھا چونکہ پالمیرا رومنوں کی اس سڑک پر واقع تھا جو دمشق سے فرات تک جاتی تھی۔ اس لیے رومنوں نے اس شہر کو آہستہ آہستہ اپنی نوازادی میں منتقل کر لیا۔ جب شہنشاہ ہیدر مین نے پالمیرا کی سیاحت کی تور رومنوں نے اس سیاحت کی یاد میں اس شہر کو پیدی ہی آنا پالی رکھا نام دیا۔ پالمیرا نے تیسرا صدی عیسوی میں سیاسیات میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ پالمیرا کے سردار نے ساسانیوں کے خلاف رومنوں کی امداد کی۔ اس سردار کو روم نے مشرقی والسرائے کا خطاب دیا۔ ۷۶ء میں پالمیری سردار جمیص میں قتل کر دیا گیا۔

اس سردار کی خوب صورت بیوی زنوپیہ کے پاس اس بات کا کافی ثبوت نہ کاکہ اس کے شوہر کو روم کے اشارے پر قتل کیا گیا ہے۔ زنوپیہ نے ملکہ مشرق کا قبضہ اختیار کر کے رومنوں سے لڑائی چھپڑ دی۔ اس نے رومنوں کو انقرہ تک پہنچا کر دیا۔ اس کی فوجوں نے رومی سلطنت کے دوسرے بڑے شہر اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ اب رومی شہنشاہ آری مین (۷۶ء) اپنی فوج لے کر میدان میں نکلا۔ انجائیہ اور جمیص کی لڑائیوں میں

میں بنو نسلب نے حیرہ میں اپنی چھوٹی سی ریاست قائم کی تھی۔ حیرہ موجودہ کوفہ سے تین میل جنوب میں واقع تھا۔ یہ شہر ایرانی عرب کی راجدھانی تھا۔ حیرہ کے عرب عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے۔ حیرہ نے نادر (۱۸۲-۶۴۲ھ) کے عہد حکومت میں بہت زیادہ ترقی کی۔ نادر کے اقتدار کا اس بات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس نے ایران پر وہ توں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ بہرام کو تحفظ نہیں کریں۔ اس نے ۱۳۰ھ عیں سا بانیوں کے ساتھ مل کر بازنطینیوں سے جنگ کی تھی۔ چھٹی صدی ھیسوی کے پہلے نصف میں حیرہ پر ندر سوم کی حکومت (۵۰۵-۵۵۵ھ) تھی۔ ندر نے رومی شام پر بہت سے حملے کیے تھے وہ انطا کیر تک جا پہنچا تھا لیکن خشافی بادشاہ حارت نے اسے شکست دی۔ ندر کا بیٹا عمر و رام (۵۵۹-۵۷۹ھ) شاعروں کا مری اور محسن تھا۔ سبع علقات“ کے سات شاعروں میں سے تین اس کے درباری شاعر تھے۔ حیرہ کی عرب ریاست سیاسی لحاظ سے ایران کی حلیفت تھی۔ ساتویں صدی کے شروع سے حیرہ میں ایک ایرانی گورنر مقرر کیا جانے لگا۔ جب خالد ابن ولید نے حیرہ کو فتح کیا تو اس وقت بھی حیرہ پر ایران کا پورا پورا قبضہ تھا۔

**حجاز کی ابتدائی تاریخ** اب ہم جزیرہ نما تے عرب کے اس حصہ میں داخل ہوتے ہیں جس نے ساتویں صدی ھیسوی میں ساری دنیا کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ حجاز آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مقدس سرزمیں ہے۔ عرب کا پہنچنے والے کی سطوح مرتفع اور تباہ کے درمیان ایک رکاوٹ (حجاز) ہے۔ مکہ مدینہ اور طائف حجاز کے تین بڑے شریروں میں۔ مکہ (بلکہ موس کا مکر وہ) اسلام سے صدیوں پہلے عربوں کا ایک مذہبی مرکز تھا۔ مکہ، بحرہ احمد کے ساحل سے اڑتا ہیں میل دور قرآن کے الفاظ میں ”وادی غبرہ ذی ذرع“ میں واقع ہے۔ میں سے شام کو جانے والے تجارتی راستہ کے عین وسط میں واقع ہونے کے بعد مکہ ایک تجارتی شہر بن گیا۔ مکہ کی

زنوبیہ کے جرنیلوں کو شکستیں ہوتیں۔ رومی شہنشاہ نے پالمیرا میں داخل ہو کر زنوبیہ کو گرفتار کر کے اُسے سفری زنجیروں میں جکڑا لیا۔ زنوبیہ کو دم کے بازاروں میں شاہی جلوس کے آگے آگے گھسپٹا گیا۔ رومی شہنشاہ کے حکم سے عربوں کے خوب صورت اور تجارتی شہر پالمیرا کو کھنڈروں میں بدل دیا گیا۔ آج بھی یہ کھنڈ رومنیوں کی تباہ کاری بیان کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس تباہی کے بعد پالمیرا کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ پالمیرا کے مرٹ جانے پر غسانیوں کے شہر جلیق نے اہمیت حاصل کر لی۔

بنوغستان جنوبی عربوں کا ایک قبیلہ تھا جو تیری صدھی عیسوی میں اپنا وطن چھوڑ کر دمشق کے جنوب مشرق میں آباد ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس قبیلے نے شامی تہذیب اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ پانچویں صدھی عیسوی میں بنوغستان بازنطینی کے سیاسی افتدار کے ماتحت ہو گئے تھے۔ بازنطین، بنوغستان کو بدرومی حملوں کی روک تھام کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بنوغستان کی راجدھانی جلیق تھی۔ بنوغستان کے سردار ابن جبلہ کو بازنطینی شہنشاہ نے اس کی فوجی خدمات کے حوالے میں بادشاہ کا خطاب دیا تھا۔ ابن جبلہ (۵۲۹ - ۵۶۴) بازنطینی مقاوم کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑتا رہا۔ دمشق اور یروشلم پر خسرو پرویز کے قابض ہو جانے سے بنوغستان میں ابتری بھیل گئی تاہم بنوغستان کے بادشاہ جبلہ اور بازنطین میں خوشگوار تعلقات رہے۔ جبلہ، بازنطین کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ یرمود (۳۶۷ء) میں عربوں کے ساتھ لڑا تھا۔ بنوغستان کے علاقہ (غستانستان) میں این سو کے قریب چھوٹے ٹبے شہر تھے۔ ان شہروں کی تہذیب شامی، عربی اور یونانی تہذیبوں کا آمیزہ تھی۔ بنوغستان کے حکمران علم و ادب کے ٹبے سر پست تھے۔ مسلح معلمات کا ایک شاعر لبید غسانیوں میں کا پروردہ تھا۔

بہت پرانے وقت سے خانہ بدوسش عرب قبائل اپنے جزیرہ نما کی مشرقی صحرائی کو پار کر کے وجہ اور فرات کی وادی میں آباد ہوتے چلے آ رہے تھے۔ تیسرا صدھی عیسوی

شہری ریاست پر قریش کا اقتدار تھا۔ مدینہ (یثرب) اور مکہ در میانی فاصلہ تین سو میل ہے۔ میں سے شام کو جانے والے تجارتی راستہ پر واقع ہونے کے علاوہ مدینہ ایک زرعی بستی تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کی کثرت تھی۔ یہ یہودی فلسطین سے اس وقت دوڑے تھے جب وہاں رومیوں کا قبضہ ہوا تھا۔ یہودیوں نے مدینہ کو زرعی مرکز بنادیا تھا۔ یہودیوں کے علاوہ مدینہ میں میں کے دو عرب قبیلے بھی آباد تھے۔ ججاز کا یہاں اسہر طائف سطح سمندر سے چار ہزار فٹ اونچا ہے۔ عرب جغرافیہ دان اسے "سر زمین شام کا ایک حکمرہ" کہتے ہیں۔ طائف کے آس پاس کی زمین چپلوں اور سبز لوں کو کثرت سے پیدا کرتی ہے۔ طائف کے گلاب کا عطر ذور دراز تک مشہور تھا۔ طائف کی شراب ان غیر ملکی شرابوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی تھی جن کے ذکر سے عرب شاعروں کا لام بھرا ٹپا ہے۔ ججاز اور نجد کی زیادہ آبادی بد دی ہے۔ ان بد دی قبائل کی پرانی تاریخ باہمی جنگوں کی ایک طویل کہانی ہے۔ عربوں کی تاریخ میں یہ دور ایام العرب کہلانا ہے ان ایام میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا۔ لڑائیوں کا سلسلہ یونہی جاری رہتا، یہی وجہ ہے کہ نجد اور ججاز کے عرب اپنے قبطی، پالمری، خستانی اور مینی بجا تیوں کی سی تندیبی ترقی نہ کر سکے۔ نجد اور ججاز کے عربوں نے اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر جو تندیب اختیار کی اس میں شاعری، شجاعت اور مہمان نوازی کو ٹرا دھل نہ کا۔ ایام العرب کی تاریخ کے بہترین مأخذ عرب شاعروں کے قصیدے ہے میں۔ ان قصیدوں میں شاعر اپنے قبیلے کی تعلیف اور اپنے مخالف قبیلے کی مذمت رہ جو کرتا ہے۔ معمولی سی بات پر دو قبیلوں میں لڑائی چھڑ جاتی۔ بار بار یہ لڑائی جنگ میں حصہ لینے والوں کے موافق اور مخالف قبیلوں کو بھی اپنی پیشی میں لے لیتی۔ عرب شاعروں کے قصیدوں کی بد دلت شمال کے عربوں نے فصاحب میں ڈانام پیدا کر لیا تھا۔ ایام العرب میں تیراندازی، شہسواری اور فضاحت بہترین اوصاف خیال کیے

جاتے تھے۔ اس زمانے کے چند قصائد سب صح معلقات ہی صورت میں آج بھی عربوں کے ادب میں نمایاں درجہ رکھتے ہیں۔ سب صح معلقات ان سات عرب شاعروں کے قصیدوں پر مشتمل ہے جنہیں عکاظ کی ادبی کانفرنس میں اولیٰ تھی حاصل ہوتی۔ عام روایت کے مطابق ان قصیدوں کو سنہری حروف میں لکھ کر کعبہ کی دیواروں پر اظہار افتخار کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ عکاظ کی ادبی کانفرنس نے سب سے پہلے امراء القیس کو اولیٰ تھی کا اعزاز دیا۔ وہ اپنے ایک قصیدے میں اپنے رنگین ایام کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔

وہ میرے انتظار میں پردے کے تیجھے کھڑی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ تیجھے ٹالنے کے لیے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں۔

میں اسے پردے نے نکال کر لے چلا وہ ہمارے پاؤں کے نشانوں کو اپنی منقش پادر سے مٹا تی جاتی تھی۔

چلتے چلتے ہم آبادی سے کو سوں دُور ہو گئے یہاں تک کہ ہم ایک ٹیکے پر پہنچ گئے میں نے اس کے دونوں گیسوں پر کراسے اپنی طرف جھکایا وہ حکمتی چلی گئی۔ اس کی کمر باریک اور اس کا رنگ گورا تھا۔ اس کا سینہ چمکتے ہوتے آئینہ کی طرح تھا۔ اس کا چمکتا ہوا چھرہ رات کی تاریکی کو اس طرح روشن کرتا تھا گورا وہ تاریکی میں چراغ ہے۔ طرقہ بکری اپنی خولہ کی یوں تعریف کرتا ہے۔

شہزادگی پتھری زمین میں میری خولہ کے آثار ایسے ہیں جیسے گودے ہوتے نقوش کے رہے سے نشان۔

”میری خولہ اگرچہ مجھ سے بہت دُور چلی گئی ہے لیکن مجھے اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں۔“

”وہ ایسی نازک اور تازہ ہے کہ اس نے جو جھانجھن اور کنگن پہن رکھے ہیں وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا کسی نہ چھانٹتے ہوتے از مذر پر زبور لٹک رہے ہیں۔“

زہیر ابن ابی سلمے اپنے بیس سال کے بعد اپنی محبوبہ کی بیتی میں سے گزرتے ہوئے کہتا ہے ”کیا یہ آثارِ ام اوفی کے مکان کے میں جو ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ آج اس گھر میں ہر ان کے نیچے پھر رہے ہیں۔“

ہاں وہ ہیں پرانے آثار، یہی ہے اس کی فردگاہ، بچی رہے لوٹ مار سے محفوظ رہے آفاتِ زمانہ سے۔“

”تبیع معلمات“ کے علاوہ اور بھی بہت سے قصیدے اور دیوان اس زمانہ کی تاریخ کے آئینہ دار ہیں۔ ایام العرب کا شاعر اپنے قبلیے کے لوگوں کے جذبات کو اُبخارنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس کے اشعار لوگوں کی زبان پر عام ہو جاتے تھے۔ اس کے اشعار ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے یہ اشعار اعجاز بیان اور حسن اظہار کے علاوہ عربوں کی تاریخ کے بہترین مکاند ہیں۔ یہ اشعار بدودی سیرت اور صحرائی زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ الشعر دیوان العرب!

نجد اور حجاز کے بڑی کاموںی مخصوص اور واضح مذہب نہیں تھا۔ وہ چاند، سورج اور ستاروں کے آنکے جگہنے کے علاوہ دنستوں، کنوں، غاروں اور پختروں کو بھی مقدس خیال کرتا تھا۔ چردا مامچاند کو دیوی خیال کرتا اور کھیتی باڑی سے متعلق بدودی سورج (ثمس) کو دیوتا مانتا تھا۔ نجد اور حجاز کے عربوں میں بہت پرستی بھی رائج تھی۔ کعبہ کے اندر میں ہوشائی بہت اسی قدر دیویوں اور دیوتاؤں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہبل کا بہت انسانی صورت پر بنایا گیا تھا۔ کعبہ کے بتوں میں یہ بہت سب سے بڑا تھا۔ یہ عرب موت کے بعد کنڈی کے قاتل نہیں تھے۔ ایک پرانے عرب شاعر کے الفاظ میں ”ہم زندگی کے میدان میں بھاگ کے پھرتے ہیں۔ لیکن آخر کار امیر اور غریب سب زمین کے نیچے پناہ لیتے ہیں اور بھی ہماری آخری منزل ہئے۔“

میں کی ریاست کی تباہی نے شمالی عرب کے بعض خطوں میں سیاسی بدamsی پیدا

کردی تھی۔ عربوں میں گرم خون تو تھا لیکن تنظیم کی کمی تھی۔ وہ کاروان تندیب میں شامل تو ہونا چاہتے تھے لیکن کوئی رہبر نہیں تھا۔ وہ بہت لچک کرنے کی صلاحیت تو رکھتے تھے لیکن تباہے والا کوئی نہیں تھا۔ سر زمین حجاز کسی بہت بڑے انقلاب کی منتظر دکھانی دیتی تھی!

## مکہ کی شہری ریاست

کعبہ نے مکہ کو شامی عرب کا ایک مذہبی مرکز بنادیا تھا۔ پھر کعبہ کو ایک خدا کی پرستش کے لیے بنایا گیا تھا لیکن پھٹی صدی عیسوی میں عربوں نے اسے ایک بُنکرہ بنار کھا تھا۔ کعبہ کے اندر تین سو سالہ بُت رکھے ہوئے تھے، زیر بُت مختلف عرب قبائل کے معبودوں کے نمائندے تھے۔ میں اور شام کے تجارتی راستوں پر واقع ہونے سے مکہ نے آہستہ آہستہ تجارتی مرکزیت بھی حاصل کر لی تھی۔ مکہ میں قریش آباد تھے۔ قریش کا شمار عرب کے ممتاز ترین قبائل میں سے تھا۔ قریش تاجر پیشیہ تھے۔ وہ اپنا سامان تجارت میں اور شام تک لے جاتے تھے۔ ان کے ذریعہ میں کاساماں تجارت شام تک اور شام کا ساماں تجارت میں تک پہنچتا تھا۔

پانچویں صدی میں قصی (قریش) نے مکہ پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ قصی کے زمانہ میں مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ اس کی آبادی بہت تھوڑی تھی۔ قصی نے کعبہ کو نئے سرے سے بنوا لیا۔ اس نے اپنے لیے ایک محل بنوا لیا، جس کا سب سے بڑا کمرہ مکہ کی شہری ریاست کا کوئی ہاں تھا۔ اس کے حکم سے کعبہ کے ارد گرد پنجتہ ملکان بنواتے گئے۔ اس نے مکہ کے لیے ایک دستور حکومت مرتب کیا۔ اس نے کعبہ کے زائروں کو پافی اور خواراں مُہیا کرنے کا انتظام کیا۔ قصی کی موت (۷۸۰ھ) کے بعد مکہ کی شہری ریاست کا نظم و نسق اس کے بیٹے عبدالدار کے پرداز ہوا۔ اس کے بعد اس کے پتوں اور اس کے بھتیجوں میں ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے لیے جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا بہت لمبا ہو گیا۔ اس جھگڑے نے قریش کے تجارتی کاروبار کو لفڑان پہنچایا۔ آخر کار اقتدار اعلیٰ کی تقسیم نے اسے جھگڑے کو چکا دیا۔

آب رسانی اور سیکیوں کی دصولی کے اختیارات عبدالشمس کو ملے بکجهہ کی تولیت،  
کو نسل بمال کی نگرانی اور عسکری علم عبد الدار کے پتوں کے حصے میں آتے عبدالشمس نے  
اپنے اختیارات اپنے بھائی ہاشم کے پروردگر دیئے۔ ہاشم کی وفات (۱۰۵) کے بعد پروردگر اختیارات  
مطلوب کر ملے مطلب کی موت (۱۰۵۴) کے بعد عبدالمطلب کو جانشینی دی گئی۔  
اس اثنائیں مکہ کی شہری ریاست میں بولا شم کا اثر درستخ بہت بڑھ گیا تھا،  
لیکن عبد الدار کے پوتے بہت زیادہ دو تینوں پوچھے تھے امیر کی رہنمائی میں وہ بولا شم سے  
افتدار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن عبدالمطلب کے حسنِ انتظام  
کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ جاتی تھی۔ تقریباً سال نئے عبدالمطلب نے  
متقدراً عالیٰ کی حیثیت سے مکہ کی شہری زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ دس  
خاندانوں کے بزرگوں کی ایک مجلس مشاورت کر آئیں سازی کا اختیار تھا۔ اسی  
عہد میں میں کے جبشتی گورنر نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔

سے مکہ میں تاجروں کی جماعت کے علاوہ غلاموں کی کافی تعداد تھی۔ ان غلاموں کا کام  
اپنے مالکوں کے لیے محنت اور مشقت کرنا تھا۔ ان کی حالت یونان کی شہری ریاستوں  
کے غلاموں ایسی تھی۔ ان غلاموں کو شہری حقوق حاصل نہیں تھے۔ منقولہ جامداد  
کی طرح غلام بھی وارثوں میں تقسیم ہوتے تھے۔ غلام اپنے مالک کو ایک خاص رقم دیکر  
آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ مکہ کی مجلسی زندگی میں شراب و شامہ کو بہت دخل تھا۔  
جوستے کا بھی عام روایج تھا۔ ناج اور راگ کے متوالوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ بڑے  
بلقے کے لوگ لاکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے۔ شعرو شاعری کے بھی عام چرچے  
تھے۔ بہت کم لوگ لکھتا پڑھتا جانتے تھے۔ بہت پرستی عام ہو چکی تھی۔ توحید پیشوں  
کو انگلیوں پر گناہ جا سکتا تھا۔

عربستان کے عوام میں علم کی نیز پڑھو تھی۔ وہ قبائلی خیگوں سے بھی اکتا۔

گئے تھے۔ عربوں میں گویا اسی مرکزیت مفقود ہتھی، لیکن وہ کسی مرکز کی تلاش میں ضرور تھے۔ عرب اپنے نیزے اٹھاتے ہوئے ایوان تاریخ میں داخل ہونے والے تھے۔ وہ علم و حکمت کی مشعل تھا میں ہوتے کاروان تہذیب کی رہنمائی کرنے والے تھے۔

۲۷۵۴۵

## دوسرے باب

# اسلام کاظہور

**تاریخ عالم کا اہم ترین باب** اسلام تاریخ عالم کا ایک حیرت انگیز اور اہم ترین پڑتال ہے۔ اسلام نے نہ صرف عربوں کی کامیابی پر مبنی بلکہ اس نے نوع انسانی پر بہت بڑا احسان کیا۔ اسلام نے علم کو عوام کی طبقیت بنادیا۔ اس نے انسان اور خدا میں براہ راست رشتہ قائم کیا ہے اور پر وہتوں کا اقتدار ختم کر دیا۔ پرانی اور فرسودہ حکومتوں کو خاک میں ملا دیا۔ گہنے کے الفاظ میں اسلام ایک ایسا انقلاب تھا جس نے اقوام عالم کی سیرت پر ایک نئی اور پائیارہ ثابت کر دی۔ "اسلام نے عوام کو اس فرسودہ تہذیب سے باہر نکالا جس نے صدیوں سے ان کے حقوق غصب کر رکھے تھے۔ اسلام نے عوام کو ذہنی اور اخلاقی پستیوں سے نکال کر نہیں تہذیب تمدن کی فتوحیں تک پہنچا دیا۔ نئے سماجی اور ذہنی نظام کی بنیاد رکھی۔ فرسودہ خیالی، توہم پستی، پست سہمتی، اور اندھی پوچا کو موت کی گھری نیند سلا دیا۔ اسلام ایک نیا اجتماعی فلسفہ تھا جس نے انسانی خیالات میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے فرضی خداوں کو ختم کر کے مجبور اور منظلوم انسانیت کے سامنے ایک نیاراستہ پیش کیا۔ اب ہر شخص کے لیے ترقی کی راہیں تھیں۔ عوام نے اپنے لیے ایک نیاراستہ خدمتیار کر لیا۔

عرب فوجیں جس ملک میں داخل ہوتیں وہاں کے عوام ان کا خیر مقدم کرتے ہے ذلت اور پستی میں زندگی لبھ کرنے والے ان بہادروں کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہے۔

عربوں کی فتوحات نے ایک ممتاز نمایاں اور بہتر تہذیب کی بنیاد پر ایشیا کے الفاظ میں عربی نے شام اور صحرائے فتح کر لیا۔ ایران ان کے حملوں کی تاب نہ لاسکا۔ بازنطینیوں اور بربریوں کے ہاتھوں سے افریقہ بدل گیا۔ المانی، ہسپانیہ کھو بیٹھے۔ مغرب میں فرانس اور مشرق میں قسطنطینیہ ان کے نام سے لرز رہا تھا۔ یہاں تک کہ آٹھویں صدی کے آغاز میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو ان عربوں کا مقابلہ کر سکے؟

یونانیوں اور رومیوں کا بدل حال اور فاقہ مست مصر عربوں کے عہد میں خوشحال اور شاداب مصربن گیا۔ سپین سے سمرقند تک عربوں نے ملک فتح کیا۔ اس کی کاپیاں پڑ دیں جو امام کی ذہنی اور معاشری حالت پہتر ہو گئی۔ سوچ بچار اور غور ذکر کی نتیٰ را یہیں کھل گئیں۔

سائنسی تحریک کا پہلا قدم مشاہدہ اور تجربہ ہے اسلام سے پہلے کی دنیا میں یونانی فنکر غالب تھا۔ یونانی اپنی ساری تاریخ میں مادی حقائق کی جستجو پر خیالی دنیا کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ یونانیوں کی ذہنی تاریخ میں ایک دور ایسا ضرور آیا جبکہ یونانی ذہن فلسفی کی جگہ سائنسی بن گیا۔ اسکندریہ کے میوزیم میں تقریباً ایک سو سال تک یونانیوں نے موجودات (مادی حقائق) کا مطالعہ کیا، لیکن اسی میوزیم نے آگے چل کر انسانی ذہن کو مزاروں خداوں کے بوجھ تک دبایا۔ جب ہر شے معبود اور مسجدوں بن جاتے تو پھر انسان عقیقت پسند کیوں کر رہ سکتا ہے جب قدرت کے ہر عنصر کی پوچا ہونے لگے تو قدرت کا سائنسی مطالعہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم سائنس تجرباتی تائید سے خالی تھی۔ انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق تصوّرات کی بنیاد توہینات پر تھی۔ بازنطینی سلطنت میں شعبدہ بازی کو سائنس کا درجہ حاصل تھا۔ وہاں سائنس کی شاخ نہیں اچل سکتی تھی۔ اس شعبہ کو اسلام نے روشن کیا۔ اسلام نے عناصر قدرت کو سطح خداوندی سے گہرا کر انہیں انسانوں کے تابع کر دیا۔ ایک ہی ضرب سے خداوں کو خادموں میں بدل دیا۔ قرآن نے حروف الفاظ میں کہہ دیا کہ قدرت ایک مقررہ نظم کے ماتحت کام کر رہی ہے اور یہ نظم غیر متبدل ہے۔ لظاہر قدرت کے مشاہدہ کی یوں تلقین

کی گئی ہے۔ اَفَلَمْ ينظُرُونَ إِلَى الْأَبْلَلِ فَلَقْتَهُ وَإِلَى السَّمَاوَاتِ كَيْفَ رُفِعْتَهُ وَإِلَى الْجَبَالِ  
كَيْفَ نُصِيبْتَهُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُئِلْتَهُ ۝ (ر ۸۸: ۱۴-۲۰) إِنَّ فِي خَلْقِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلَاقَاتِ الْيَلَى وَالثَّارِ وَالْغُلْمَكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْجَرَبِ مَا  
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ تَاءٍ فَلَمْ يَأْتِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهِ  
وَبَيْتٌ فِيهَا مِنْ حَصْلٍ وَابْيَهٖ وَتَقْرِيبُ الْرِّبْعِ وَالسَّمَابُ الْمُسْخُوبُ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي تِلْوِهِ يَعْقِلُونَ ۝ (۱۵۱: ۲۵)

کہ ہی ایک بستی تھی، جہاں سے اسلام کی آواز اٹھ سکتی تھی۔ یہ آواز کہ سے ابھی۔ مدینہ  
میں پہنچی وہاں سے اکٹاف عالم میں پھیل گئی۔ آج دنیا کا شاید ہی کوئی حصہ ہو جہاں سلامان  
موجود نہیں۔

**عبد المطلب** عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر اپنے دس بیٹوں کو اپنے  
سامنے جوان دیکھ لوں تو ایک کو بتان حرم کے نام پر قربان کر دوں  
گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عرب سردار کی یہ آرزو پوری کر دی۔ ان کے مان دس بیٹے ہوتے  
جب وہ جوان ہو گئے تو عبد المطلب منت پوری کرنے کے لیے ان تمام بیٹوں کو لے کر  
کعبہ میں حاضر ہوتے۔ وہاں پر قرעה ملا لگایا جو جان کے چیتے بیٹے عبد اللہ کے نام نکلا۔ بوڑھے  
سردار کے لیے کچھ کو ہاتھ پڑا۔ مگر وہ اپنی دھن کا پکا اور بات کا کھرا تھا۔ لہذا اپنے پیارے  
بیٹے عبد اللہ کو قربان کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس موقع پر بیٹوں نے ٹوکا اور عرب کے سرداروں  
نے مشورہ دیا کہ عبد اللہ کے بدلے دس اونٹ قربان کر دیجئے۔ عبد المطلب بڑی مشکل  
سے اس بات پر رضا مند ہو گئے۔ چنانچہ عبد اللہ اور دس اونٹوں پر قرעה ملا لگا۔  
اتفاق سے قرעה پھر عبد اللہ کے نام پر نکلا۔ عبد المطلب نے دوسروی دفعہ دس کی تجھیس  
بیس اونٹ کر دیتے۔ یہاں تک کہ بیس کو بڑھاتے بڑھاتے تعداد سو تک پہنچ گئی۔  
تو آخر اونٹوں پر قرעה آیا۔ اس طرح عبد المطلب نے سو اونٹ قربان کیے اور عبد اللہ قربانی

سے نجح گئے۔

اس واقعہ کے بعد بوڑھے باپ کو ان کی شادی کی فکر مہوتی پہنچے عبدالمطلب نے قریش کے ایک گھرانہ بنی زہرہ کے ایک شخص عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ کے ساتھ جو قریش کے تمام خاندانوں میں متاز تھیں اپنے بیٹے عبد اللہ کی شادی کا پیغام بھجوایا۔ پیغام فوراً منتظر کر لیا گیا اور اس طرح جناب عبد اللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی شادی کے وقت عبد اللہ کی عمر تقریباً سترہ برس تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد عبد اللہ بخارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہو گئے۔ والپی سفر میں بیمار ہو گئے اور مدینہ میں رُک گئے جب عبدالمطلب کو اس کا علم ہوا تو اپنے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا جب حارث مدینہ پہنچے تو عبد اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبد اللہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ چھیتے تھے۔ لہذا اس سانحہ سے جوان بیوی، بوڑھے باپ اور خاندان کے دیگر افراد کے دلوں پر جو گزدی ہو گی اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔

## تیسرا باب

صلی اللہ علیہ وسلم

# حضرت محمد

**ولادت** | جناب عبد اللہ کی وفات کے بعد حضرت بی بی آمنہ کے ہاں خاوند کی وفات کے تقریباً چار ماہ بعد وہ بچہ پیدا ہوا جس کی بدولت ملک عرب کی خاک میں کمیا کی تاثیر پیدا ہوتی اور عالم انسانیت کی بگڑی بن گئی۔ اس قیام اور اُنمی بچہ کی قسمت میں دنیا کا سب سے بڑا انسان اور محبوب ترین رہنما ہونا کھاتا۔ عبد المطلب نے جب پوتے کی پیدائش کا سنا تو انہیم میں آنسو چمک اٹھئے اور دوڑتے ہوتے پوتے کو اٹھا کر خانہ کعبہ نے گئے جہاں پرسب نے انہیں مبارک باد پیش کی۔ پیدائش کے ساتوں دن عبد المطلب نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کی تقریب میں عجب لوگوں نے بچہ کا نام دریافت کیا تو عبد المطلب نے خوشی میں بے اختیار کہا۔ ”محمد“ لوگ حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا نام ہے یہ کیونکہ ان کے ہاں یہ لفظ بالخل نیا اور انوکھا تھا۔ جناب عبد المطلب نے جواب میں کہا۔ محمد کے معنی میں وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتے گی۔ قدرت نے عبد المطلب کی زبان سے یہ جملے کیے اور کس انداز سے کھلواتے۔ اس وقت خود عبد المطلب سمیت کوئی بھی یہ سب بچہ نہیں جانتا تھا۔ اُس کے بعد دنیا نے دیکھا اور انسانی تاریخ کو اہ ہے کہ کسی فردِ واحد کی اس قدر تعریف نہیں کی گئی جس قدر اس جلیل القدر ہستی کی کی گئی۔

فرمانرواتے عالم، شہنشاہِ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس سے

عالم امکان میں تشریف لاتے آپ کے آنے سے توجید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آگئی اور آفتاب پرایت کی شعاعیں ہرمٹ پھیل گئیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور مہمیت دان عالم محمد پاشافلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۹ ربیع الاول پیر کے دن بمقابلہ ۰۳ اپریل ۱۷ ھ وحی صادق کے وقت ہوئی تھی۔

شرفانے عرب کے یہاں دستور تھا کہ شیرخوار پچھے کھلی اور آزاد فضامیں پر درش پانے کے لیے دیہات میں بدوعی دایتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی پر درش اور تربیت کی جاتی تھی اور حبیب یہ پنجے نو دس سال کے ہو جاتے تو ان کے والدین کے پاس واپس بھیج دیے جاتے۔ اس طریقہ کار کا دوہراؤ فائدہ ہوتا تھا۔ کھلی فضامیں ایک تو پنجے تنو مند اور بہادر جوان نکلتے تھے۔ دوسرے یہاں ان کو خالص عربی زبان سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور دو تین روز کے بعد ابوالحباب کی لونڈی فوپہ نے دو وحد پلایا۔ پھر دستور کے مطابق ہاشمی خانوادے کا پیر جلیل القدر بپچھے دافی جلیلہ سعدیہ کے پرد کر دیا گیا جو کہ ہوازن قبلہ سے تعلق رکھتی تھیں جناب جلیلہ نے اس بپچھے کی پر درش پڑی اختیاط اور محبت سے کی اور حبیب آپ کی عمر حبھے پرس کی ہوئی تو آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پرد کر دیا۔

جناب آمنہ کی دیرینہ خواہش تھی کہ بپچھے حب فرا بڑا ہو تو اسے اپنے مرحوم رفیق کے قبر پر لے جائیں۔ سا تھی تو بپچھے پہنچا تھا لیکن اس کی قبر پر ایک وفادار بیوی کا ایک حسین و توانا پچھے کی صورت میں تحفہ لے جانے کا رمان ان کے دل میں عرصے سے بچل رہا تھا۔ چنانچہ اگلے سال ماں بیٹے کو باپ کی قبر دکھانے اور نصیاں والوں سے ملانے کے لیے مدینے لے گئیں۔ قبر کی زیارت سے فارغ ہو کر جناب آمنہ نے اپنے میکے میں کوئی ایک

ماہ تک قیام کیا اور جب مکہ کی جانب واپس روانہ ہوئیں تو راستہ میں ابوآکے مفتام پر اچانک بیمار ہوتیں اور انتقال کر گئیں۔ ماں کے پر دلیں اور سفر میں اس طرح اٹھ جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں سے دل پر زبانے کیا گزری ہو گی۔ آپ کی والدہ کی کنیزِ اُمِ ایمن سفر میں آپ کے سہراہ تھی۔ چنانچہ وہ بڑی احتیاط سے آپ کو مکتے لائی اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے پیرو کر دیا۔

## دادا کی وفات اور چچا کی کفالت | الناک حادثہ سے بہت صدمہ ہوا

لیکن اس سفر سے پہلے اس بچے کے سر پر باب کا سایہ نہ تھا اور جب سفر سے واپس ہوا تو ماں کی ماتحتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس قیم پوتے کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے اپنی تربیت میں لے لیا۔ جب تک زندہ رہے کہ بھی اپنے سے جدا نہ کیا لیکن اب ان پر بڑھا پا غائب آچکا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو حضرت عبدالمطلب نے ۸۷ برس کی عمر میں وفات پائی۔ عبدالمطلب مرتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابوطالب کے پیرو کر گئے تھے۔ لہذا دادا کی وفات کے بعد آپ کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے چھا ابوطالب نے سنپھال لی۔ جناب ابوطالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد نے اپنے بھتیجے کو اولاد سے بھی بڑھ کر لاد پیار سے پالا۔ ساتھ لے کر سوتے اور جہاں بھی جاتے ساتھ لے کر جاتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چھا سے والہانہ محبت تھی۔ آپ بچپن میں طبعاً کم سخن اور عام بچوں سے مختلف تھے۔ اکثر غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ آپ کی عمر تقریباً اوس برس کی ہوئی تو آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بکریاں چڑایں۔ بعض مغربی سورخین نے اس کام کو اچھا نہیں گردانا مگر حقیقت میں دستور کے مطابق اس وقت عرب میں بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چڑاتے تھے اور یہ کوئی محبوب کام نہ تھا۔

آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو آپ کے چھا ابوطالب نے تجارت کی غرض سے شام کا عزم کیا۔ آپ کو اپنے چھا سے اس قدر محبت تھی کہ جب وہ سفر کروانے ہونے لگے تو آپ بے اختیار ان سے لپٹ گئے۔ چھا کو بھی آپ سے بے پناہ اُنس تھا۔ اولاد سے زیادہ عرب رکھتے تھے۔ اس بے ماں باپ کے بھتیجے کی دل خکنی گوارانہ تھی لہذا ساتھ لے لیا روایات میں آتا ہے کہ اسی سفر کے دوران ایک عیسائی پادری نے آپ کے نبی ہونے کی بشارت دی تھی۔ جب آپ کی عمر حدودہ یا پندرہ برس ہوتی۔ بعض روایات میں ہے۔ جب آپ بیس برس کے ہوئے تو قریش اور قیس عیلان دونوں قبیلوں میں لڑاتی چھرگئی جو کہ دن تک جاری رہی۔ چونکہ قریش حق پر تھے لہذا آپ نے بھی اس لڑاتی میں شرکت کی۔ مگر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بلکہ صرف دفاع کیا اور اپنے اعمام کو تیروں سے بچاتے رہے۔ اس واقعہ سے آپ کا اول دن سے ہی بہادر اور شجاع ہونا ثابت ہوتا ہے جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی دیانت، اعتماد اور یقین کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کو الصادق اور الایمن کے اثابات سے یاد کرتے تھے اور بے کھٹکے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتے۔

اس وقت عرب پر جاہلیت کی گرفت تھی۔ عربوں کی اخلاقی حالت اس قدر پست تھی کہ شراب خوری، قمار بازی، بُت پرستی، بے حیاتی، ڈاکہ زنی اور غارت گرمی عرب معاشرے کی جزوں چلی تھی۔ پوری عرب سوسائٹی اسی رنگ میں رنگی ہوتی تھی اور یہ تمام براہیاں عرب جزوں کے پسندیدہ مشاغل تھیں۔ خدا تے دو جہاں کی وحدتیت اس کے برعقی ہونے کا تصور تو پایا جاتا تھا مگر خال خال اور اس تصور کو ان تمام براہیوں اور بُت پرستی کے نشانے دھنڈا کر دیا تھا۔ عرب معاشرے میں عورت کی حالت اتنی پست اور ناگفته بھتی کہ وہ بھیر بکریوں کی طرح تجارتی جنس بن چکی تھی۔ شادیوں پر کوئی پابندی اور قید نہ تھی ایک وقت میں ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ عورت کو جتنے مردوں سے وہ چاہئے تعلق پیدا کرنے کی کھلی آزادی تھی۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی ہوئی بے حیاتی اور

بدکار می تک ہر براقی مانی جاتی تھی۔ عرب کے معاشرے کی پستی اور گراونڈ کی انتہا یہ تھی کہ منقولہ اور سوروثی جامد اور کی طرح باپ کی وفات کے بعد اُس کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں مل جاتی تھیں اور وہ اپنی حقیقی ماں کے علاوہ سوتیلی ماوں سے عقد کرنے میں کسی قسم کی شرم و حیا، محسوس نہیں کرتا تھا۔ ان جملہ برائیوں کے علاوہ عرب ایک شدید مجرمانہ اور بھیانک رسم پر کارند تھے لعینی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی بڑے فخر پر انداز میں قتل کر دیا کرتے تھے یا زندہ درگور کر دیا کرتے تھے تاکہ کوئی ان کا داما ادا کر نہ لسکے آف کو غلاموں کی زندگی اور روت پر پورے مالکانہ حقوق حاصل تھے۔ لیکن میں کوئی مرکوزیت نہ تھی۔ ہر قبیلہ اپنے مخصوص علاقہ میں اپنے سردار کے ماتحت خود مختار بننا ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے مختلف قبائل شدید قسم کی رقاتیوں اور رنجشوں میں مبتلا تھے۔ معمولی سی بات پر ملواریں نکل چکی تھیں اور بعض اوقات معاملہ اتنا طول کیکر تاکہ بڑی ہولناک جنگوں کی صورت اختیار کر لیتا جو کئی پشتون تک جاری رہتا۔

عرب اگرچہ جاہل تھے اور لکھنے پڑھنے سے واقفیت نہ تھی مگر ان کو اپنی زبان اُنی اور شاعری پر اس قدر ناز تھا کہ ساری دنیا کو اپنی فصاحت و بالاغت کے مقابلے میں "عجم" یعنی گونٹکا سمجھتے تھے۔ عربوں کے ہاں شرافت کا معیار صرف یہ تھا کہ کس شخص کے پاس دولت، علامہ، لونڈیاں، اونٹ، ابکریاں اور بلخ زیادہ ہیں۔ نیکی اور تقویٰ کا تصویر تک نہ تھا۔ عرب کے اس عجیب و غریب ماحول نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اننا گھر اثر کیا کہ آپ دنیا جہان سے الگ تھلک تھیں اور غور و نکر میں ڈوبے رہتے۔ اس بُرے ماحول میں آپ حُسنِ اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ بیماروں کی بیمار داری، ہمایوں کے حقوق کا تحفظ اور الحافظ، بڑوں کی عزت، چھپوٹوں پر شفقت، وجہ کسوں اور ضعیفوں کی دست گیری، تیمیوں اور بیویوں کی امداد اور ہر مظلوم اور مصیبہت زده کی حمایت آپ کا شیدوہ تھا۔ آپ کے حُسنِ اخلاق، دیانت، پاک ہٹنی، راست بازی، اخلاقی حمیدہ، نیکی،

شرافت، بے دانع اور معمومنہ زندگی نے اہل مکہ کو آنامتاڑ کیا کہ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ کے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ جاتے، اپنے ذاتی معاملات میں مشورہ لیتے اور تمام حجگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ آپ ہی سے کرتے۔

## حلفُ الفضول

یہ معاہدہ عربوں کی تاریخ کا ایک زریں کارنامہ ہے۔ ملک عرب میں رذائیوں کے متواتر سلسلہ نے سینکڑوں گھرانے بر باد کر دیے تھے اور ہر طرف قتل اور سفا کی اور غارت گری کا دور دورہ تھا۔ ان حالات کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے بہت پہلے ہی ملک عرب کی چند شخصیتوں نے مل کر آپ میں ایک معاہدہ کیا تھا جس کی رو سے مظلوم کی طرف داری اور ظالم کا مقابلہ کرنے کا عہد کیا گیا تھا۔ حسن اتفاق سے اس قدیم معاہدہ میں جس قدر لوگ شامل تھے ان سب کے ناموں کے آگے فضل کا لفظ ضرور آتا تھا۔ یعنی فضیل بن حارث، فضیل بن واعہ اور مفضل وغیرہ لہذا اسی بناء پر اس تاریخی عہد کو حلفُ الفضول کے نام یاد کیا جائے گا۔ اگرچہ یہ معاہدہ اب بے کار ہو چکا تھا اور اس جماعت کا وجود بھی ملک عرب سے ختم ہو چکا تھا مگر اس مشہور و معروف معاہدہ کا ذکر اکثر لوگوں کی زبان پر آبھاتا تھا۔ اللہ آجہنگ فخار (جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی ہے) کے بعد آپ کے چھازبیر بن عبدالمطلب جو خاندان کے سربراہ تھے اور چند درستے لوگوں کے دلوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی کہ اس معاہدہ کی ازسرنو تجدید کی جاتے تاکہ قبائل کو باہمی رنجیش اور قتال سے باز رکھا جاتے۔ چنانچہ خاندان ہاشم زیرہ اور تمیم کے چند سرکردہ ارکان عبد اللہ بن جدیان کے گھر جمع ہوتے اور یہ طے پایا کہ ان میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کسی ظالم کو مکہ میں نہیں رہنے دیا جاتے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوتے تھے بھی اس معاہدہ میں شرکیت تھے اور آپ عہد

بیوت میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس معاہدہ سے مجھ کو بلاستے اور مرد طلب کرے۔ تو میں اس کو جواب دوں گا اور اگر اس کے مقابلہ میں مجھے مُرخ زنگ کے اوپنٹے بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا اور آج بھی ایسے معاہدہ کے لیے کوئی بلاستے تو میں ضرور حاضر مول جب آپ جوان ہو گئے تو آپ نے عرب کے بشیر قبائل کے سرداروں اور دوسرے اہل عسلم حضرات کو ملک کی بد امنی مسافروں کے لئے اور ضعیفوں اور زناداروں پر ظلم و ستم کا حال بیان فرمائے ان تمام لوگوں کو تسام بڑی باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کر لیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک پر ایک جماعت قائم ہوئی جس میں بنو هاشم بنو المطلب بنو اسد، بنو زہرا اور بنو قیم کے خاندان شامل ہوتے اس انہیں کے ہر ایک ممبر کو یہ حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ :-

- ۱۔ ہم ملک سے بد امنی دور کریں گے اور جنگ و جدل کو مٹا لیں گے۔
- ۲۔ مسافروں کی حفاظت کریں گے اور اپنے اپنے قبیلہ کی حدود سے لوٹ مار ختم کریں گے۔
- ۳۔ غریبوں کی امداد کریں گے۔
- ۴۔ زبردستوں کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔

منظوم کی حمایت اور اسے اس کا حق دلوانا اس جماعت کے اغراض و مقاصد کا نمایاں پہلو تھا اور اس جماعت کے قیام سے مکہ کے ہر خاص و عام کو بہت فائدہ پہنچنے لگا۔ اس طرح دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا اجتماعی معاہدہ امن طے پایا جیکہ یورپ میں مدتیں بعد اسی قسم کی ایک کوشش "آرڈر آف دی نائٹ ہود" (The Order of The hood night) کے نام سے کی گئی۔

کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود عرب اگرچہ بت پرستی اور طرح طرح کی بذعات خرافات میں مبتلا تھے مگر اس کے باوجود کعبہ اب بھی ان کے نزدیک محترم اور مقامیں جگہ تھی اور انہوں نے اپنے بشیر بتوں کو کعبہ کی حمارت کے اندر ہی سوار کھا لئا۔ اسی زمانے میں

عمارت زیادہ اونچی نہ تھی اور دیواروں پر چھٹت بھی نہ تھی۔ مزید پہاں عمارات نشیبی جگہ پر  
نکھلی اور بارش کے وقت سارے شہر کا پانی حرم میں جمع ہو جاتا تھا۔ برسات کے پانی کی وجہ تو  
کے لیے بالائی حصے پر کئی بار بند تعمیر کرایا گیا تھا مگر وہ ہر بار پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا  
تھا اور عمارت کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ انہی دنوں خانہ کعبہ میں کسی بد احتیاطی کی وجہ سے  
اگ لگ گئی اور عمارت کی دیواریں جگہ جگہ سے پھٹ گئیں۔ لہذا قریش نے فیصلہ کیا کہ  
پوری عمارت کو گرا کر از سر زو تعمیر کیا جائے۔ اس تجویز پر آفاق تو سب کا ہو گیا مگر کھڑی ہوئی  
عمارت کو گرانے کی کسی میں ہمٹت نہ تھی آخِر قریش کے ایک معروف سردار عمارت گرانے  
کے کام میں شریک ہو گئے۔ جسون آفاق سے انہی امام میں جده کی بند رگاہ کے قریب ایک  
تجاری جہاز ساحل سے ملکہ اگر پاش پاش ہو گیا تھا۔ قریش کو جب اس کی بابت معلوم ہوا  
تو وہ ولید بن مغیراً رضندا اور سرداروں کے ساتھ جده پہنچ گیا اور جہاز کے تختے خرید لیے۔  
پھر زموروں پر لا دکر مکہ میں لے آئے اور انہی تختوں کی بعد میں خانہ کعبہ پر چھٹت ڈالی گئی  
اسی جہاز میں یاقوم نامی ایک رومی معمار تھا۔ ولید اس کو بھی ساتھ لے آیا اور تمام قریش  
نے مل کر پہلے تو کعبہ کی دیواروں کو حفڑتے ابراہیم کی تعمیر کردہ بنیادوں تک منہدم کیا اور  
پھر مل کر تعمیر شروع کر دی۔ تعمیر کا کام اس پنج انعام پایا کہ مختلف قبائل نے عمارت کے  
مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے تاکہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جاتے لیکن جب  
ولید بلند ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں جھر اسود کو نصب کرنا تھا تو قریش میں سخت  
چگکڑا پیدا ہو گیا۔ کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا اکری سعادت اُسی کے حصہ میں آئے مگر بات کسی  
صورت طے نہیں ہو پاتی تھی۔ یہاں تک کہ اس چگکڑے نے شدید جنگ کی صورت اختیار  
کر لی اور قریش کے خاندان ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر ٹوٹ گئے۔ اس چگکڑے کی وجہ سے  
تعمیر کا کام پانچ دن تک بند رہا۔ اس وقت ملک عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص  
جان دینے کی قسم کھانا تھا تو ایک پیالہ میں اپنا خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ لہذا

اس موقع پر بھی بعض ائمہ اپنے دوں نے یہ رسماً ادا کر کے جان پر کھیل جانے کی تیاری کر لیتی۔ چار دن تک جھگڑا رہا۔ قریش کے نام قبائل پانچوں دن جھگڑے کا کوئی حل نکالنے کے لیے کعبہ میں جمع ہوتے اور ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس مجلس میں ابو امیہ ابن مغیرہ نے جو قریش کے قبلیے میں سب سے مہم تھا یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو تو انظر آتے اسی کو ثالث متفر کیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے اُسی پر سب رضامند ہو جاتیں۔ سب نے اس راستے کو تسلیم کر لیا اور جب دوسرے دن تمام قبائل کے معاشر آدمی موقع پر پہنچے تو کثرت ربانی دیکھ کر دم بخود ہو گئے۔ صبح سوریہ سے سب سے پہلے لوگوں کی نظر میں جس ہستی پر پڑیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے دیکھے گئے۔ یہ دیکھتے ہی سب پکار اٹھ کے الامین ہی ہمارا حکم (ثالث) ہو گا۔ لیکن آپ نے یہ قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہروز ہوں عربوں کی حیثیت پسند اور عزت پرست فطرت کو جس طرح آپ نے اپنے فیصلے سے مطمئن کیا۔ دنیا کی عدل و انصاف کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک ایسے نازک مستد کا حل جس کی خاطر تمام عرب قبائل مرنے والے بیٹھے تھے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے سب کا مطمئن ہونا اس امر کی روشن دلیل ہے کہ آپ کی فہم و فرست، دیانت اور منصفت مزاجی پسجھی ایمان رکھتے تھے۔ آپ نے معاملے سے آگاہ ہو کر ذرا سی دیر میں تمام جھگڑے کو ختم کر دیا اور تمام بڑے بوڑھے اور قریش کے معاشر زبردار آپ کی ذہانت اور قوت فیصلہ اور منصفت مزاجی کو دیکھ کر سب شیش درد گئے اور سب نے بالاتفاق اخشتہ و فرج بھاگی صدائیں بلند کیں آپ نے فرمایا کہ جو قبائل دعویدار ہیں سب ایک ایک نمائندہ نامزد کریں۔ چنانچہ اخشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر جگہ اسود کو اس میں رکھ دیا اور تمام عرب سرداروں سے کہا کہ چادر کو چاروں کونوں سے پکڑ کر اور پڑھاتیں اور اس شرف میں خرکیں ہوں۔ جب یہ تقدیس پھر اپنی مخصوص جگہ پہنچ گیا تو آپ

نے اپنے دستی مبارک سے جگراؤ کو اٹھا کر اُسے دیوار میں نصب فرمادیا۔ اس طرح آپ کے حسین تدبیر سے ایک خطرناک لڑائی رک گئی۔ کبھی کوئی تسلیمیت نہ ہوئی اور آپ کے اس طرزِ عمل سے سب لوگ بہت خوش ہوتے۔ جس نے مُنا آپ کی بہت تعریف کی اُس وقت آپ کی عمر ۲۵ برس کی تھی۔

انہی دنوں ملک میں قحط پڑ گیا۔ تجارت آپ کا پیشہ تھا اور حضرت خدیجہؓ الکبریؓ نے شادی کے بعد آپ کی گزر اوقات بڑے اچھے انداز میں ہو رہی تھی۔ کوئی آپ کا دشمن نہ تھا۔ اور آپ پورے ملک میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے جاتے تھے۔ آپ کے چھا ابوطالبؓ کی تیریں ہونے کی وجہ سے افلام و نگار کے ساتھ گزر اوقات کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سے چھا کی یہ حالت دیکھی نہ گئی فوراً اپنے چھا عباس بن عبدالمطلب کو مشورہ دیا کہ قحط کا زمانہ ہے۔ ابوطالبؓ کا کنبہ بڑا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ اس طرح ان کا بوجہ ملکا ہو جاتے گا۔ آپ کے چھا عباس نے اس مشورہ کو پسند کیا چنانچہ جعفر بن ابوطالبؓ کو تو عباس بن عبدالمطلب اپنے گھر لے گئے اور علی ابن ابوطالبؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آتے اس وقت علی کرم اللہ وجہ کی عمر صرف پانچ سال تھی اور یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ چند واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، خوش اطواری، بے داش جوانی اور زیر ک شخصیت کی بین شہادت ہیں۔ اس پر فتن دُور میں جہاں ہر طرف عیاشی اور فحاشی کا چرخا ہوا اور بیستی اور وحشی بندی کا دور دورہ ہو آپ کا اسوہ پاک اہل مکہ کے یہے محظوظ حیرت انگیز نہ تھا۔ اس وجہ سے اعلان نبویت پہلے وہ آپ کو الصادق اور الامین کہہ کر پکارتے اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ ان تمام صفات کے علاوہ حیا ر اور خوداری کی صفات بھی آپ میں بے حد فایاں تھیں۔ پچھن میں بھی آپ اپنا جسم مبارک نگرانہ ہونے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تو آپ بیویش ہو کر گرد پڑے خوداری کا یہ

عالم تھا کہ ہمیشہ کو شمش کرتے کہ آپ کا بوجھ چھاپنے پرے اور اپنی روزی خود پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ شادی کے بعد مالدار بیوی کامال اپنے اور پر حلال نہ سمجھا بلکہ اس وقت بھی روزی اپنے ہاتھوں سے حاصل کرنے کی کوشش فرماتے۔

اپنے چھا ابوطالب کے ساتھ آپ نے چکپن میں

## حضرت خدیجہؓ سے شادی

کی بدولت آپ کو ہر قسم کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا اور آپ کے حسین معاملہ کی شہرت بھی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ تجارت کے کار و بار میں آپ ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ ملک عرب کے تجارت اور دوسرے اُمرا عموماً اپنا سرمایہ کسی تجربہ کار اور دیانتدار شخص کے ہاتھ میں دیکر اس کے منافع میں شرکت کر لیتے تھے اور تجارت کی غرض سے شام و بصر اور میں کے متعدد سفر آپ نے کیے تھے۔ مکہ میں ایک معزز خاتون خدیجہؓ تھی تھیں جن کی دو شادیاں ہو چکیں تھیں اور آب وہ بیوی تھیں۔ وہ بہت پاکدا من اور شریف النفس تھیں اور لوگ ان کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے انہیں طاہر کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ان کے والد خویلد بہت دولت مند تھے اور اس نے اپنی زندگی میں ہی ساری دولت اور تجارت اپنی اکلوتی بیٹھی خدیجہ کے پیر کر دی تھی جسے انہوں نے خوب ترقی دی۔ حضرت خدیجہؓ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آلتا ہے اور رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ کی چھپری بہن تھیں۔ جب آپ کی عمر ۲۵ برس تھی اور آپ کی دیانت اور خرافت کا چھپا عام تھا۔ تجارت کے کام میں آپ کافی تجربہ حاصل کر چکے تھے لہذا آپ کے حسین معاملہ، راست بازمی اصدق و دیانت اور پاکیزہ خیالات کی بنابر حضرت خدیجہؓ نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں میں آپ کو اور دوں سے دو گنا معاوضہ دوں گی۔ آپ نے یہ شرط قبول فرمائی اور مال تجارت لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس طریقہ تجارت "مختار بست" کہا جاتا تھا۔ اس سفر میں خدیجہؓ کا ایک ہمیرو بھی آپ کے

ساتھ تھا۔ تجارت میں فائدہ توحضرت خدیجہؓ کی توقعات سے بہت بڑھ کر ہوا اگر میرے راستہ میں آپ کے اخلاق و اطوار کو جیسا کچھ پایا تھا جب اُس کا ذکر اپنی مالکہ سے کیا تو وہ آپ کے اخلاق کی گردیدہ ہو گئیں۔ چنانچہ سفر سے واپس آنے کے تقریباً تین ماہ بعد حضرت خدیجہؓ نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوایا جو آپ نے اپنے چھا ابو طالب اور دوسرے عزیز دل کے مشورہ سے قبول کر لیا۔ اس طرح آپ کی شادی حضرت خدیجہؓ سے ہو گئی۔ آپ کے چھا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور پانچ سو طلاقی درہم مهر قارپایا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر ۲۵ برس اور حضرت خدیجہؓ کی عمر ۱۷ برس کے قریب تھی۔ پہلے دو شوہر دل سے دو حصہ زادے اور ایک حصہ زادی تھیں۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہؓ نے اپنی ساری دولت آپ کے سپرد کر دی۔ مگر آپ نے اس میں سے اپنی ذات پر کبھی کچھ خرچ نہ کیا۔ بلکہ تجارت کر کے اپنے اور گھر کے اخراجات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اور ضروریات سے بھی ہوتی دولت کو غریبوں محتاجوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیتے ہی دجھے ہے کہ نکاح کے تقریباً پندرہ برس بعد حباب خدیجہؓ کی تمام دولت ختم ہو گئی اور وہ خوش تھیں کہ ان کی دولت خدا کی راہ میں اللہ کے بندوں کے کام آتی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہؓ نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام زید تھا آپ کی خدمت میں دے دیا تھا۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا اور فرمایا کہ "تم چاہو تو میرے پاس رہ سکتے ہو چاہو تو اپنے ماں باپ اور عزیز دل کے پاس جا سکتے ہو۔ آج سے تم آزاد ہو۔ حضرت زید نے اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کی خدمت میں ہی رہنا پسند کیا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔

تفکر اور توجہ الی اللہ | جب آپ کی عمر پنیس برس کی ہوئی تو آپ اکثر کبھی سے تعلقات میں کمی ہرگز نہ تھی۔ مگر آپ کی روشن اور چمکدار آنکھیں کسی گھری نظر کا پتہ ضرور

دیتی تھیں۔ اکثر خاموش رہتے۔ چاروں طرف جہالت کی تاریکی چھاتی ہوتی تھی۔ آپ کے ذہن میں جو شمع روشن تھی وہ بڑھ کر آس پاس کی تمام تاریکیوں کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عام النسلوں کی حالت کو بہتر بنانے کا جذبہ پیدا رہا تھا اور یہ جذبہ دن بدن شدت پر ٹھاکار رہا تھا۔ آپ تنہار ہئے اور خدا کی قدرت پر خور کرنے میں بہت زیادہ لطف محسوس کرتے۔ مکہ سے لگ بھگ تین میل دو رغایبِ حرام میں آپ کتنی کمی دن خلوت اختیار فرماتے کہانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور حب نیختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور پھر سامان لے کر واپس چلے جاتے اور ہمیندوں مراقبہ میں مصروف رہتے۔ صبح شام سوچ بچار اور خدا کی عبادت میں گزار دیتے یہ سلسلہ کتنی سال تک جاری رہا جوں جوں چالیس کاسن قریب آتا گیا غارِ حرام میں خلوت زیادہ محبوب اور مدت دراز ہوتی گئی نبوت سے چھپ میئنے پہلے سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے کہ ایک

## نزوں و حجی

دن اچانک بیع الاول کی آٹھویں تاریخ کو دشمنوں کے دن جبریل علیہ السلام آتے اور سورہ اقرام کی شروع کی آتیں آپ کو پڑھائیں اور آپ مشرف بنبوث ہو گئے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول معبوث فرمایا۔ سب سے پہلے جو حجی آپ تک پہنچائی گئی اس کے الفاظ یہ تھے۔

**إِقْرَأْ يَا سَاحِرَتُكَ الَّذِي خَلَقَ هَذَلِّقَ إِلَاهُسَانَ مِنْ عَلَقَ هَذَلِّقَ هَذَلِّقَ إِقْرَأْ وَزَبَدَهُ  
الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَرِ هَذَلِّقَ إِلَاهُسَانَ مَالَهُ يَعْلَمُهُ**

ترجمہ: اپنے اس خدا کے نام سے پڑھ، جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے انسانوں کو جسے ہوتے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا بڑا ہی حجم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

جناب جبریل علیہ السلام کا پہلی بار دیکھنا اور پیغام رب انبیاء کا پہلی آپ کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا لہذا اتنی بڑی ذمہ داری کے احساس سے گھبرا جانا قدرتی امر تھا۔ آپ فارسے نکل کر فوراً گھر

تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ "مجھے کمبل اڑھادو۔ مجھے کمبل اڑھادو۔"  
 جناب خدیجہ نے آپ کو پریشانی کے عالم میں دیکھا تو فوراً آپ پر ایک چادر ڈال دی۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد آپ نے سارا داقعہ حضرت خدیجہ کو سنایا۔ جناب خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا "آپ غریبوں پر رحم فرماتے ہیں، یہ کسون کی مدد کرتے ہیں۔ قرض داروں کے قرض کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی حرسوان کریں گے۔ کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور نیک کام کرنے والوں کی اعانت کرتے ہیں۔" اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چھپرے بھائی در قب بن نوقل کے ہاں لے گئیں۔ وہ ایک عیسائی عالم تھے۔ جب انہوں نے سارا ما جرا اُستاذ کہا "یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتراتھا۔ اسرائیلی سینہروں کی پیشگوئیاں آپ پر صادق آئیں گی۔"  
 پھر کہا "کاش میں اُس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تم سے لڑے گی اور یہاں سے نکال دے گی۔ کاش میں اُس وقت تک ساتھ دیتا۔ پھر اُس نے کہا "پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ان کی بدکردار قوموں نے ایسا ہی بتاؤ کیا ہے۔" در قب بن نوقل کی باتوں سے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی ہوتی اور آپ اپنے آئندہ کے عظیم اور کھنکھن کام کے لیے اپنے آپ کو تیار پانے لگے۔

اس پیغام الٰہی کے بعد کچھ عرصہ تک فرشتہ نہ آیا لیکن آپ غارِ حرامتو اتر جاتے رہے کیونکہ وحی کی لذت خطاب نے آپ کو بے تاب کر دیا تھا اور دل و دماغ اور ذہن و فکر کی ذہن اس عجیب واقعہ کے بعد کچھ اور ہو گئی تھی۔ ایک عرصہ کے بعد پھر فرشتہ آیا اور سورہ مدث کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں جن کے الفاظ یہ تھے۔

يَا يَهَا الْمُدَّىٰ ثُوُهْ قَمْرٌ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبَرَهُ وَثِيَابَكَ فَطَهَرَهُ  
 الرُّجُرُ فَاهْجُرُهُ

ترجمہ: "اے چادر میں پیٹے ہوئے کھڑا ہو جا۔ پھر ڈرا۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر

اور اپنے کھڑے پاک رکھا اور گندگی سے بچا رہا۔

اب کی مرتبہ پہلی سی حالت نہ ہوئی۔ پہلے اضطراب کا عالم تھا مگر اب دل کو سکون تھا اور وہ عظیم ذمہ داری اب محیم حقیقت بن کر سامنے آگئی تھی۔ اب آپ پر فرض ہو گیا تھا کہ نبوت کی چادر اور ڈر ہے ہوتے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور خدا پر بھروسہ کر کے لوگوں کو حق کی دعوت دیں اور ہدایت کی طرف بلا ہمیں۔ ان کو جربے کاموں سے روکیں اور ان کے خیالات درست کریں۔ آپ گھر تشریف لاتے اور فرمان خداوندی کے مطابق اپنی رفیقة حیات جانب خدیجہ کو خدا کے حکم سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہؓ نے کسی تامل اور پس و پیش کے بغیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے فرما بعد آپ کے درست حضرت ابو بکرؓ اور آپ کے پیچازاد بھائی حضرت علیؓ اور آزاد غلام زیدؓ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔

## اعاز بیان اور کفار کی مخالفت

اس کے بعد آپ نے حبِ حکم فائزہ“ شروع کر دی جس پر کفار مکہ نے آپ کی بھروسہ مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں لیکن آپ کے چھا ابو طالب آپ کی حمایت کرتے رہے۔ ایک بار کفار تنگ ہکر جمع ہوتے اور ابو طالب سے جا کر کہا یا تو محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم سے رہیں گے۔ ابو طالب نے آپ کو ان کے حوالے کرنا قبول نہ کیا۔ لہذا کفار نے آپ کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس خوف سے ابو طالب آپ کو لے کر مع تمام بني هاشم و بنی مطلب مکہ کے قریب ایک شب رج شعب ابی طالب کھلاگی (یعنی گھانٹی میں حفاظت کی غرض سے چلے گئے) اور کفار مکہ نے آپ سے اور آپ کے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ کفار نے سو داگروں کو منع کر دیا کہ شب ابی طالب میں نہ جائیں اور ان لوگوں کے ہاتھ کوئی چیز نہ بھیں اور ایک کاغذ اس قطع علاقہ کے عہد کا لکھ کر خاندان بعہد میں لٹکا دیا۔ آپ اپنے خاندان

سمیت پورے تین سال تک نہایت تکلیف میں اس گھاٹی پر رہے۔ آخر کار آپ کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ کیرے نے اس عہد نامہ کے کاغذ کو بالل کھایا ہے۔ مسداتے اللہ کے نام کے جواں عہد نامہ میں کہیں کہیں نہما۔ ایک حرف نہیں چھوڑا۔ آپ نے یہ حال ابو طالب سے بیان کیا۔ ابو طالب نے فرائش عرب سے نکل کر اس بات کا ذکرہ قریش سے کیا اور کہا کہ اس کاغذ کو دیکھیو اگر محمد کا بیان غلط نکلے تو ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور اگر صحیح نکلے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اس قطع رحم اور عہد سے باز آجائو۔ قریش نے کعبہ میں حج کر اس کاغذ کو دیکھا جو فی الواقع ایسا ہی تھا۔ اس طرح قریش اس ظلم سے باز آتے اور عہد نامہ کو چاک کر دالا۔ اس کے بعد ابو طالب آپ اور دوسرے تمام خاندان سمیت شعب سے باہر نکل آتے اور آپ پرستور دعوت حق میں مشغول رہے۔ حصار شعب سے نکلنے کے تقسیر یا آٹھ ماہ بعد آپ کے چھا ابو طالب انتقال کر گئے اور اس کے تین دن بعد حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئیں۔ اس طرح آپ کو یہ بعد دیگرے دو شدید صدمے برداشت کرنے پڑے۔ اس سے کفار کے حوصلے مزید بڑھے اور انہوں نے آپ کو طرح طرح کی ایذا تین پہنچائیں کہ ان کی مثال انسانی تاریخ میں کم ملتی ہے۔

**معراجِ مریف** | معراجِ نبوی اس عہد کا ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک رات آپ سورہ ہے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لاتے اور آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضاکے مطابق آپ آسمانوں کی سیر کریں گے اور آپ کو جنت اور ورزخ کا عینی مشاہدہ کرایا جاتے گا۔ حضرت جبریل نے سب سے پہلے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے قلب مبارک کو ایک زرین طشت میں کھکھل کر آب زرم سے وہہ بیا پھر ایک اور طشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھی وہ قلب میں بھرو گیا اور بعد میں اس کے حل مقام پر رکھ کر درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک سفید براق پر سوار کرایا گیا اور کبعہ سے بت المقدس میں مسجد قصی میں لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت

کی اور پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے جہاں پر مختلف آسمانوں کی سیر کی بحث و فرضیہ کے مقامات دیکھے اور خدا تعالیٰ کے قربِ حقیقی سے بہرہ یاب ہوتے۔ یہ تجربہ اہل عرب کے لیے بالکل نیا تھا کیونکہ آج تک ایسی سعادت کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ الگی صبح جب آپ نے اس عجیب واقعہ کا ذکر لوگوں سے کیا تو کفار گراہ کوں پا پیکنڈہ کرنے لگے اور لوگوں کو بذلن کرنے کے لیے اس سے خوب کام لیا۔ یہ واقعہ مراجخ نبوی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یہ انسان کی لا محمد و ترقی اور عروج کا پستہ دیتا ہے۔ ہم خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مراجخ کے بلند ترین مقام پر اس لیے پہنچایا گیا کہ آپ نے نیکی ایشارہ، عبادت گزاری اور استقامت فی الدین سے اپنے آپ کو اس العام کے اہل بنالیا تھا۔

**بیرون مکہ میں تبلیغ** شروع شروع میں تو آپ مکہ میں ہی تبلیغ کا کام کرتے رہے اور بعد آپ مکہ سے چالیس میل دُور طائف میں نبی ٹقیف کی طرف تشرف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گردہاں کے لوگوں نے دعوتِ حق نہ صرف قبول کرنے سے انکار کیا۔ بلکہ چند شرارت پسند لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ آپ پر پھر برسلتے گئے اور آپ ہولہاں ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک ایک قبلیہ میں فرد اف دا پھر کر دعوتِ حق دیں گے۔ مبلغ اسلام کی ان کوششوں کا بہت اچھا اثر ہوا اور رفتہ رفتہ فدائیں اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

**ہجرت** ایذا میں پہنچا رہے تھے۔ سلمان چاروں طرف سے کفار میں گھر رہے ہوتے اور خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ انھیں چلنے پھر نے خیالات کا انکھا کرنے اور مذہبی فدائی کی ادائیگی میں بھی آزادی نہ حاصل تھی۔ مکہ کے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر مدینہ کے لوگوں نے انھیں ایک ایسے خلہ کی پیش کش کی جہاں پر انہیں ہر طرح کی آزادی میسر

سہ سکتی تھی اور کھلے بندوں تبلیغِ اسلام کے موقع موجود تھے۔ چنانچہ ظلم و ستم سے ننگ آئے ہوئے مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خفیہ طور پر آہستہ آہستہ یثرب (مدینہ) کو ہجرت شروع کر دی۔ ہر روز دو چار مسلمان اپنے گھر باز عرب زیروفار اور مال و متساع کو الوداع کہہ کر یثرب کی راہ لیتے اور تھوڑے ہی عرصہ میں مسلمانوں کی تقریباً تمام آبادی مدینہ منتقل ہو گئی۔ لہذا سب سے آخر میں آپ نے ہجرت فرمائے کا ارادہ کیا اور ہر کفار مکہ کو بھی مسلمانوں کی ہجرت کا پتہ چل گیا تھا اور اب انھیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ انھیں بڑی فکر ہوئی کہ اگر یہ سب بعیج نسلکنے میں کامیاب ہو گئے تو شکار جاتا رہے گا اور اسلام طاقتور اور مضبوط ہو جاتے گا۔ چنانچہ سب نے مل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا مگر خدا نے ان سب کی تدبیر میں خاک میں ملا دیں۔ قریش رات بھر سارے مکہ میں پھرہ دیتے رہے اور خدا نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ آپ سب کے سامنے خاموشی سے رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ روانہ ہوتے مگر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ صدیق نے تین دن غارِ ثور میں گزارے اور بعد میں کئی دن کے سفر کے بعد آپ مدینہ سے تین میل ادھر قبانام کی ایک بستی میں پہنچ گئے اسی دوران میں حضرت علیؓ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سمیت قباد پہنچ گئے کفار نے آپ کی مکے سے ہجرت کے بعد آپ کا تعاقب کیا تھا مگر ناکام والپس لوٹے۔ قباد میں آپ نے اپنے دستِ مبارک سے مسجدِ قباد کی بنیاد رکھی۔ قباد میں قیام کے چودہ دن بعد آپ نے شہر یثرب کا رُخ کیا۔ یہ جماعت کا دن تھا۔ راستے میں بنی سالم کے محلہ میں دو پرکے وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ آپ کی امامت میں جماعت کی پہلی نماز تھی اور نماز سے پہلے آپ نے خطبہ بھی پڑھا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ کا بڑا پرچوش استقبال کیا۔ مدینہ کے لوگوں نے مهاجرین کو بھائیوں سے بڑھ کر عرب میں جانا اور آپ کے فرمان کے مطابق ہر انصاری نے

یک ایک ہباجر کو اپنا بھائی بنایا اور انھوت کا پورا حق ادا کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ہباجرین و انصار میثیر و شکر ہو چکے تھے اور وہ آپس میں ایسے رہنے لگے جیسے پشت ہاپشت سے اسی دیار میں رہتے چلے آ رہے ہیں اور جوان کے قبیلہ میں ہے انہیں درثہ میں ملا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے ہجرت فرمانا بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کا باعث بنا اور ترقی اسلام کے لیے آپ کا یہ قدم نہایت دورس نتائج کا حامل ثابت ہوا۔ مسلمان اب ہر طرح سے تبلیغ کے لیے آزاد تھے اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ مزید برآں ہجرت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن، گھر بار، کار و بار مال و دولت اور خاندانی تعلقات پر اسلام اور اشاعت توحید کی فضیلت عملاً ثابت کر دی اور آنے والی نسلوں کے لیے راہِ سُنّت بتا دی کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اگر گھر بار، عزیز و اقارب اور بلکہ وطن کو بھی قربان کرنا پڑے تو بلا نامہ الیسا لازم ہے۔

مدینہ پہنچ کر مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے۔ ہر طرف مخالفت تھی۔ مدینہ میں یہود کا خطرہ تھا تو مکہ کی طرف سے قریش کا اور وہ موقع ملنے پر اسلام کے ان چند نام لمباوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے چنانچہ ایسے نامساعد حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنا کام شروع کیا۔ لیکن آپ کا حسن نذر اور پیغمبرانہ فہم و فراست ان تمام مددات پر غالب آئی اور آپ کے صبر و تحمل، ایمان و توکل اور بردباری نے اسلام کی تبلیغ کے لیے تمام را ہیں ہموار کر دیں۔ آپ نے یہاں کے مقامی کفار، مکہ کے کفار اور غرب کے یہود اور منافقین مدینہ سے بیک وقت بڑی بڑی باری سے مقابلہ کیا۔ آنحضرت یہود و قریش کی عادات و اطوار سے اچھی طرح واقف تھے چنانچہ آپ نے مسجد نبوی اور اپنے حجرہ کی تعمیر کے بعد فوراً مدینہ کے دفاع اور کفار سے مقابلہ کی طرف توجہ کی۔

سب سے پہلے آپ نے یہود سے ایک دوستاذ معاہدہ کیا جس سے وقتی

طور پر مدینہ میں کامل سکون پہنچا اور آپ کو آس پاس کے قبیلیوں کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کرنے اور اسلام کی اشاعت کرنے کا کافی موقع مل گیا۔ اسی طرح پہلے جدینہ کے قبیلہ سے اور پھر حمزہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے کیے۔ اس کے تین چار ماہ بعد آپ نے بنی مذرخ کے قبیلہ سے بھی دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ معاہدے سے ایک طرف آپ کی امن پسندی اور صلح جوئی کی نشاندہی کرتے تھے اور دوسری طرف سیاسی بلند نظری اور حُرثت پسندی کے منظہر تھے۔

## **جنگ بدر ہے**

قریش کہ کو اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور وہ اس موقع کی تاک میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے مکر لی جاتے۔ آفاق سے ان دنوں مکر کے چھوٹ لوگوں کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرا اور مسلمانوں نے بغیر اس آنحضرت کے ایما کے اس قافلہ کو لوٹ لیا۔ مکر کا ایک شخص عمر بن حضری مارا گیا اور دو گرفتار کیے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ پذیراً ضنكی کا اظہار کیا مگر میں واقعہ جنگ بدر کا سدب بن گیا۔

مکر کے قریش بدالہی نے کی خاطر ایک ہزار بہادروں کے لشکر اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ ابو جہل اور عقبہ کی زیر کمان مدینہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کے ارادوں کی خبر پائی تو ۱۳ جانباز مجاہدین کو لے کر شہر سے نکلے اور وادی بدر کے دو سرے سرے پر پہنچ کر رک گئے۔ ان جانبازوں کے پاس پورا اسلحہ بھی نہیں تھا۔ الگلی صحیح کو دو لوں فوجیں میداں جنگ میں آئنے سامنے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی کثرت دیکھی تو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز مک فتح و نصرت کی دعا کی کہ اے خدا! اگر یہ مٹھی بھر مسلمان مٹ گئے تو پھر زمین پر تیرانام لیوا کوئی باقی نہ رہے گا اور اس جوش و خروش سے کوئی سمجھے قیامت تک یاد نہ کرے گا۔

اس کے بعد حق و باطل کے اس سب سے پہلے تاریخی معرکے کا آغاز ہوا۔

سب سے پہلے عمر و بن حضری کا بھائی حامر اپنے مقتول بھائی کے خون کا دعویٰ لے کر آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اُس کے مقابلہ میں نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے عامر جہنم رسید ہوا۔ اس کے بعد عقبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ مسلمانوں کی طرف سے یمن انصاری مقابلہ کو نکلے۔ عقبہ نے ان کو دیکھ کر پکارا محمد! یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ لہذا آپ کے فرمانے پر ۴۰۰۰ مینوں پیچے پہنچتے اور اب حضرت حمزہ، حضرت علیؓ اور حضرت علیؓ میدان میں آتے۔ قبہ نے حضرت حمزہ سے اور ولید نے حضرت علیؓ سے مقابلہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہنم و اسل ہوتے۔ شیبہ نے حضرت عبدالوہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علیؓ آگے بڑھے اور ایک ہی دار میں شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت زبیر نے سعید بن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی بچھی تان کر ماری کر وہ دھم سے زین پا رہا۔

اسکے بعد عام مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں اطراف سے برد آزماجی توڑ کر رکھے۔ انصار کے دو نئے مجاہد ابو جبل کی طرف ایسے جبیٹے کر دوہ ابھی سنجل نہ سکا تھا کہ جسم دوکھنے ہو کر زمین پیگرا۔ عقبہ پہلے ہی مارا جا چکا تھا اب ابو جبل کا مارا جانا تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے اور دوہ میدان چھوڑ کر بجا گئے لگے۔ قریش کے ستر بڑے بڑے ریکیس میدان جنگ میں بارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوتے۔ مسلمانوں میں ہر قوم چودہ جانباز شہید ہوتے۔ بدکی فتح نے عرب کی سیاست کا پانسہ لپٹ دیا۔ اب مسلمان صرف ایک مذہب اور محض روحانی اور اخلاقی اصولوں کے داعی نہ تھے بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت بھی تھے جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں بے تلامر ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور بات اعد حکومت قائم کرنا تھا۔ بلکہ قیصر و کسری کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں حدل والصفات اور انہوں نے مساوات کی ریاست اور الٹی حکومت قائم کرنا تھا۔

**جنگِ احمد مسلمہ** [غزوہ بدہ میں حق و باطل کے معکر کے میں کفر کی شکست

نے قریش کی جوش انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ چنانچہ قریش نے اگلے سال دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور تین ہجری میں مدینہ کے پاس پہنچ کر احمد پہاڑ کے پاس پڑا دال لیا۔ تیرے دن ہجۃ کی نماز کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر مقابلے کے پیسے نکلے۔ مسلمانوں نے احمد پہاڑ کو پیچھے رکھ کر اپنی صفیں درست کیں۔ پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ جدھر سے ڈرتھا کہ دشمن اگر حملہ نہ کر دے اس لیے پچاس نیز انداز دل کا ایک درستہ اُس کی خناخت کے لیے متعین کر دیا گیا اور آپ نے اُنہیں حکم دیا کہ لڑائی کا نقشہ خواہ کچھ سب جانتے تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹانا۔ تھوڑی دیر بعد قریش کے لشکر کے پیسہ سالار طلب نے آگ نکل کر نعرہ جنگ بلند کیا تو حضرت علیؓ اُس کے مقابلے میں نکلے اور بڑھ کر ایسی تلوار ماری کروہ آں دلہ میں کٹ کر زمین پر آ رہا اُس کے بعد اُس کا بیٹا آگے بڑھا تو حضرت حمزہؓ نے اُس کا خاتمہ کر دیا اب عام جنگ شروع ہو گئی حضرت علیؓ اور حضرت حمزہؓ دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ اور ان میں محلبی مج گئی۔ چند گھنٹوں کے مقابلے سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور میدان میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر درہ پر متعین تیر انداز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کر کے نیچے اتر آتے۔ خالد بن ولید نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب پیٹ کر دیکھ کر کفار کی بھاگتی ہوئی فوج نے بھی دوسری جانب سے مسلمانوں پر باز کی طرح آپ نے یہ دیکھ کر کفار کی بھاگتی ہوئی فوج نے بھی دوسری جانب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملہ سے مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ گھسان کارن پڑا۔ حضرت مصعب بن عمر حن کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملتی تھی۔ شہید ہو گئے تو کفار نے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ اس افواہ سے مسلمانوں کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں۔ کفار کا زیادہ دباو اس طرف تھا جہاں آپ کھڑے تھے مگر حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور قریش کے دار روکتے رہے۔ اس اثناء میں چند مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو دُور سے دیکھ دیا۔ آپ کو دیکھ کر ان میں نیا جوش اور ولہ پیدا ہوا لہذا انہوں نے سب مسلمانوں کو بلا کر اللہ اکبر کے نعروں سے کفار پر طہر بول دیا۔ آپ اور چند صحابہ قریبی پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور ان مسلمانوں نے کفار پر اور پرستے تیر اور چتر پر ساتے اس طرح کمی گھنٹے کے مقابلہ کے بعد کفار کا زور ٹوٹا اور فوج پسا ہونے پر مجبوڑ ہو گئے۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی مگر انہیں نقصان بھی بہت اٹھانا پڑا۔ استر کے قریب صحابی شہید ہو گئے جس میں حضرت ہمزة جبیی مقتدر ہستیاں بھی شامل تھیں اور خود جانب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے اور آپ کے چہرہ مُبارک پر بھی رحم آتے۔ ہنضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے مجاہدین اسلام کو ایسی زک اٹھانا پڑی کہ تمام عمر نہ محبوڑے۔

**یہود سے مقابلہ** شروع شروع میں یہودیوں نے مسلمانوں سے دوستی پیدا کر لی تھی اور آپ سے صلح کا معاہدہ کر لیا مگر اسلام کی ترقی انہیں ایک آنکھ نہ بھائی اور جوہ مکہ کے قریش اور مدینہ کے منافقوں سے ساز باز کرنے لگے اور ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سوچنے لگے۔ معاہدہ کی رو سے ان پر لازم تھا کہ جوہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ حملہ اور کا مقابلہ کریں مگر ان کا سردار عبد اللہ بن ابی عین وقت پر اپنے یمن سوآدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور معاہدہ کی کھلی خلاف ورزی کی۔ لہذا ان آستین کے سانپوں سے پٹنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ یہود مسلمانوں سے طرح طرح کی شرارتیں کرنے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے تنگ ہاگر پہلے یہود کے قبلہ بنو قنیقاع کے خلاف اعلان جنگ کیا تو وہ قلعہ میں بند ہو کر مقابلہ کرنے لگے مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ پندرہ دن کے بعد یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔ قبلہ بنو قنیقاع سے نجات کے بعد دوسرے یہودی قبلہ بنو نفیر نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرد میاں تیز کر دیں چنانچہ ان

اُسے پہنچا بھی صدر می تھا مگر وہ بھی بتو قیصارع کی طرح قلعہ بند ہو گئے اور پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے اور صلح کی درخواست کی۔ آپ نے اُن کی درخواست منظور کر لی مگر سزا کے طور پر انہیں بھی جلاوطن کر دیا۔ اس طرح سلامان کو یہودیوں کی سازشوں سے نجات مل گئی۔ اب مدینہ میں حرف ایک یہودی قبیلہ بنی قریظہ رہ گیا، لیکن انہیں کچھ زندگی کیونکہ ابھی تک یہ قبیلہ معاہدہ کی پابندی کر رہا تھا۔

## جنگ خندق

قبیلہ بنی نفیر کو جب مدینہ سے اُن کی سازشوں کی بنا پر نکال دیا گیا تو خیبر میں پہنچ کر انہوں نے دور فرزد کی قبائل سے اسلام کے خلاف جوڑ توڑ شروع کر دیا اور ایسے تمام قبائل کو ساتھ ملا کر ایک متحدہ محاذا قائم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے کم کے کفار سے بھی ساز بازگر کے انہیں ساتھ ملا لیا اور پوبیس ہزار کا ایک متحدہ لشکر کے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ کفار کی ان چالوں سے مسلمان بھی بے خبر نہ تھے۔ جب وسمان کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا برخ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلامان فارسی نے جو ایران کے رہنے والے تھے اور جدید جنگی اصولوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ یہ راستے دی کہ چونکہ تمین اطراف سے مدینہ گھروں اور خلکستانوں سے گھرا ہوا ہے اور ان اطراف سے جملے کا خطرہ نہیں۔ لہذا جس طرف سے راستہ کھلا ہے اُدھر ایک گھری خندق کھو دی جاتے اور خندق کے اس طرف رہ کر مقابلہ کیا جاتے۔ سب نے اس مشورہ سے اتفاق کیا۔ چنانچہ آپ نے تمین ہزار مسلمانوں کو ساتھ لے کر خندق کھو دنے کا کام شروع کر دیا۔ لہذا تمین ہزار مقدس نفوس نے اس کام کو بیس دن میں مکمل کر لیا اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کی کھدائی میں مزدوری کی طرح کام کیا۔ اس لڑائی میں وسمان نے بیس دن تک مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ ہر طرف سے ناکہ بندی بھی کی مگر پھر بھی جملہ کرنے کے قابل نہ ہو سکا۔ ایک دن قریش کا سب سے بہادر جنریل عمر بن ووکسی جگہ سے خندق کی پورائی کم پاکہ اپنے گھوڑے سے سبیت پا رکھا۔

مگر حضرت علیؓ نے فوراً آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا جب محاصرہ نے  
مول پکڑا تو دشمن کے قبائل میں چھوٹ پڑنے لگی۔ خدا کا کرننا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں ایک  
رات کو ایسی شدید آندھی چلی کہ کفار کے نیچے گاہک ہوتے۔ لہذا قریش سمیت تمام قبائل نے بدال  
ہو کر محاصرہ چھوڑ دیا اور چند دن کے اندر اندر مدینہ کا قرب و جوار اسلام دشمن افواج کے  
وجود سے بالکل پاک ہو گیا۔ کفار کی اس بڑی طرح ناکامی سے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا  
رُعب و بدیہ اور بڑھ گیا اور اب وہ ان کی جنگی مہارت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔  
اس لڑائی کے دوران مدینہ کے یہودی قبیلہ بنی قریظہ نے کفار ساتھ دیا تھا اور عورتوں  
کے قلعہ پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ لہذا ان سے دو ہاتھ کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔  
یہودی فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ ایک ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر اُن کے سرداروں نے  
ہتھیار ڈالنے میں ہی خیریت جانی۔ مگر اوس قبیلہ کے ایک مسلمان سردار سعد بن معاذ نے  
یہ فیصلہ دیا کہ قبیلہ بنی قریظہ کے جو مرد اڑانے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جاتے اور عورتوں  
اور بچوں کو قید میں ڈال دیا جاتے اور ان کا تمام مال و اساب سے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتے  
چنانچہ اس تجویز پر عمل کیا گیا اور اس طرح مدینہ اور حجاز کی سر زمین شری یہود اور سرمایہ دار  
مہاجن کے وجود سے بالکل پاک ہو گئی۔

**صلح حلب پلیسٹہ**

---

اسلام کی ترقی میں سب روکا دیں اب آہستہ آہستہ  
دو رہ گئیں تھیں اور مدینہ میں اب اسلام کا مکمل ہتھیاری  
نظام قائم ہو گیا تھا۔ دو روزہ دیک سے لوگ اسکر اسلام قبول کر رہے تھے مگر کے مہاجر جب  
سے مدینہ آتے تھے حج اور طواف کعبہ سے شرف یابنے ہوتے تھے لہذا اب ان سب  
کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ریخواہش تھی کہ مکہ جائیں اور کعبہ کی زیارت کریں۔  
اس ارادہ سے آپ ذمی قدرہ شہر میں لگ بیگ چودہ سو مسلمانوں کو ساتھ لے کر  
مکہ روانہ ہوتے۔ لڑائی کی بالکل نیت نہ تھی۔ تکوار کے سوا اور کوئی ہتھیار ساتھ لے جانے

کی اجازت نہیں اور تلواروں کو بھی نیام میں رکھنے کا حکم تھا۔ البتہ قربانی کے لیے اونٹ لئے جانے کی اجازت محتی۔ ادھر جب مکہ میں قریش کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ یہ سمجھ کر مسلمان حملہ کی غرض سے مکہ پر چڑھاتی کھڑے ہے ہیں چنانچہ انہوں نے بھی مقابلہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مکہ سے تھوڑی دُور ایک مقام حدیبیہ پر پنج کمپ نے پڑا اور ڈالا اور ایک سفیر قریش کی طرف بھیجا جس نے قریش کو جا کر سفر کا مقصد بتایا اور کہا کہ ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں لہذا کام ہرگز خیال نہیں مگر قریش نہ مانے لہذا اسفیروں کی آمد درفت جاری رہی۔ بالآخر بات صلح نامہ پر ختم ہوئی تجھے صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کی شرائط یہ ہیں۔

- ۱۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال تین دن کے لیے حج کی غرض سے آئیں۔

- ۲۔ تلوار کے سوا کوئی سوتھیا رسانا تھا نہ ہوا اور وہ بھی نیام میں رہے۔
- ۳۔ مکہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں جانتے وقت ان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔
- ۴۔ عرب کے قبائل میں بوجس فریق سے چاہے معابردار میں شرکیہ ہو سکتا ہے۔
- ۵۔ قریش میں سے اگر کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جاتے تو اُسے واپس کرنا ہو گا اور اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا جاتے تو واپس نہ ہو گا۔
- ۶۔ صلح دس سال کے لیے کی جاتی ہے۔

یہ شرائط اگرچہ قدر سخت تھیں مگر آپ نے ان کو مان لیا اور تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کے فائدے منظرِ عام پر آنے لگے۔ بعد میں ہونے والے واقعات کی رو سے پہ صلح نامہ بلاشبہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی تدبیر اور فہم و فراست کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ اس عرصہ میں قریش کی طرف سے کچھ سکون ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو کے شہروں اور ہمسایہ مالک کے بادشاہوں کو دعوتِ حق کا پیغام بھجوایا جس سے ہر بڑے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے۔

**صلح مکہ شہر** | صلح نامہ حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ عرب قبائل سے جو قبلہ چاہے سے۔ مکہ کے قریب بنو خزانہ اور بنو بکر دو قبیلے آباد تھے۔ بنو خزانہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا جس میں جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کی امدادی شامل تھی چنانچہ کسی معمولی بات پر بنو بکرنے نے بنو خزانہ پر حملہ کر دیا اور قریش نے بھی ان کی مدد کی۔ حالانکہ معاہدہ کی رو سے انہیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا۔ بنو خزانہ کے چند آدمیوں نے بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ لینا چاہی مگر بنو بکر اور قریش نے ان کا وہاں بھی تعاقب کیا جب یہ داستان خلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ پنچی تو آپ کو بہت وکھ ہوتا۔ حلیفت ہونے کی صورت میں بنو خزر کی امداد فرض تھی۔ چنانچہ مندرجہ ذیل سطور کے ساتھ ایک قاصد کو مکہ روانہ کیا گیا اور کہا ان میں جو پسند ہو اختیار کریں۔

- ۱۔ بنو خزانہ کے مقتولین کا خون بھاروپے کی صورت میں ادا کر دیں یا
  - ۲۔ بنو بکر کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں یا
  - ۳۔ اعلان ہو جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔
- قریش کے مفرد سرداروں نے پہلی دو تجاویز کو نظر انداز کر دیا اور تیسرا کے تحت معاہدہ کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔

چنانچہ بنو خزانہ کی امداد اور کفار مکہ سے برداؤز ماہنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور شہر کو دس ہزار جرمی مسلمانوں کی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ کفار میں مسلمانوں کے اس شکر ہمار سے مقابلہ کی سکت نہ تھی۔ راستے میں کسی نے بھی بالکل مزاہمت نہ کی اور مسلمانوں کے دستے شہر کے مختلف راستوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے اندر داخل ہوتے۔ آپ نے سب کافروں کو عام معافی دینے کا اعلان کر دیا اور آپ کے اس اخلاق سے بڑے سے بڑے کافروں اور منکرِ اسلام بھی آپ کے گردیدہ ہو گئے۔ اس طرح کمہ فتح ہو گیا اور اسلام کی راہیں ہر ایک پر گھل

گیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اسے بقول سے پاک کیا اور اسلام کو جھنڈا لگاڑ دیا۔ پھر حندر روز قیام کر کے مکہ شہر کا نظم و نسق مسلمانوں کے پیر کر کے اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ والیں آگئے۔

## آخری حج اور خطبہ

سالہ تک تقریباً سارے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا اور فتح مکہ کے بعد عرب قبائل و هزاروں اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ دور آپ کے لیے بڑی مصروفیت کا دور تھا، ہر روز چاروں طرف سے وفد آتے اور آپ سارا دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کو اسلام کی تعلیم دیتے اور خدا کے احکام سناتے اور باقی وقت عبادت میں گزر جانا۔ اب سارا عرب جو ایک زمانے میں ہزاروں قبائل میں بٹا ہوا تھا متعدد ہو کر اسلام کا علمبردار بن چکا تھا۔ چنانچہ آپ جس مقصد کے لیے تشریف لاتے تھے وہ پورا ہو چکا تھا لہذا سالہ ۶۳ ہی میں آپ نے حج کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ خبر سنتے ہی ہزاروں بندگان خدا اور فدائیان رسول آپ کے ساتھ حج کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ۶۳ ذوالحجہ کو آپ ایک لاکھ مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ میں حج کی غرض سے داخل ہوئے۔ مکہ پہنچ کر مناسک حج ادا کرنے سے قبل ۸ ذوالحجہ کو آپ نے وہ تماریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو الوداعی خطبہ کہلاتا ہے اور جس کو پڑھ کر قیامت تک مسلمانوں کے دل ایمان سے منور ہوتے رہیں گے۔

آپ نے ارشاد فرمایا!

لوگو! تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن تم اس شہر کی اور اس میمنے کی عربت کرتے ہو۔

تمہیں عنقریب خدا کے حضور حاضر ہونا ہے اور وہاں تمہارے اعمال کی باز پیش ہو گئے لوگو! تمہارے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا۔

اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا۔ امانتوں میں خیانت نہ کرو اور گناہ سے بچے رہو۔ سود حرام ہے۔ آج کے بعد مفروض صرف اصل ادا کرے گا اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان عباس بن عبدالمطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام حجگڑے مٹاتے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں خود رسیعہ بن عبدالمطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی کھانا کھلاو جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتے تو اگر تم معاف نہ کر سکو تو ان کو جد اکرو۔ کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں اور ظلم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ لوگوں اجان رکھو کہ سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی میں۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی ملکیت ہے۔ وہ بھائی نہیں لے سکتا جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے اپنے آپ کو بے الصافی سے بچاتے رکھو، جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں یہ الفاظ پہنچا دیں کیونکہ لمکن ہے وہ لوگ جنہیں بتایا جاتے ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں جنہوں نے اپنے کا لوز سے نہیں ٹُسنا ہے۔

خطبہ ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا "لے خدا! میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور اپنا کام پورا کر دیا۔ تمام لوگ پکار اٹھتے بے شک آپ نے اپنا کام پورا کر دیا اور ان الفاظ کے ساتھ آپ نے خطبہ ختم فرمایا جب آپ کا یہ بے مثال خطبہ ختم ہوا تو یہ وحی نازل ہوئی۔

**الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لِكُمُّ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ**

**لِكُمْ أَلِسْلَامٌ دِينَا**

آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔

**علالت اور وفات**

کمر سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوتی مگر معولاً میں کوئی ذق نہ آیا جب طبیعت

زیادہ بگڑائی تو آپ نے بخاری کے ان ایام میں رہائش کے لیے حضرت عالیہ کا گھر جو سجدہ نبوی می  
سے بالکل منفصل تھا منتخب کیا اور حد درجہ کمزوری اور ناتوانی کے باوجود وصال سے تین دن قبل  
تک نماز کی امامت فرماتے رہے اور اس کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت  
کے فرائض سونپے۔ ان ایام میں صحابہ آپ کے گھر مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوتے تو آپ  
ان کو اسلام کے احکام سناتے اور نصیحتیں فرماتے اور باقی وقت خدا کی یاد میں محروم ہتے آخر  
۱۲ ربیع الاول اللہ و دشنبہ کی دوپہر کو آپ اپنے مالکِ حقیقی سے جاتے اور اس طرح  
توحید کی سب سے بڑی علمبرداری اور شیع رسالت اس دنیا سے اٹھ گئی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

آپ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ چن لیا  
اور جناب صدیق اکبر نے اسلام کے خلیفہ اول کی حیثیت سے دنیا کی پہلی اسلامی سلطنت کی  
بâگ ڈو راپنے ہاتھ میں لے لی۔

## چوتھا باب

### خلافتِ راشدہ

**حضرت ابو بکر صدیقؓ** خلیفہ منتخب ہونے کے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیقؓ (۴۳۲ء، اگست ۶۳۴ھ) نے مسجد نبوی میں تقریر کرتے ہوئے

فرمایا "اگر میں مفید کام کر دوں تو بھی ساتھ تعاون کرو اور اگر میں غلطی کر دوں تو مجھے مشورہ دو جس شخص کے پیرو حکومت کا کام ہو اُسے سچی بات بتانا وفاداری ہے اور اس سے سچی بات چیپانا بغاوت ہے اگر میں خدا اور اُس کے رسولؐ کی اطاعت کر دوں تو میری اطاعت کرو اور اگر میں ان کی نافرمانی کر دوں تو پھر تم پرمیری اطاعت لازم نہیں"۔ آپؐ کی خلافت کا آغاز اس جوابی انقلاب کے انسداد سے ہوا جو جزیرہ نما تے عرب کے مختلف حصوں میں ارتدا در، زکوات سے انکار اور نبوت کے دھوکے داروں کی صورت میں ظاہر ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر تنہا مدینۃ النبیؐ کو سارے جزیرہ نما کی قبائلی شورشوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ آپؐ نے سب سے پہلے شام کی فہم کو امامہ بن زید کی کمان میں جاری کیا۔ اس فوج کو خست کرتے وقت آپؐ نے پاہیوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ "بڑھوں بڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کریں، ہر بھے اور بھیل والے درختوں کو نہ کاٹیں۔ صرف خوارک کے لیے جانوروں کو ذبح کریں اور جوان کی پناہ میں آتے اُسے قتل نہ کریں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو وہ تمہاری خانہت کرے گا"۔ حضرت ابو بکرؓ نے ان الفاظ پر اپنی تقریر ختم کی۔ چالیس دن بعد یہ فہم کامیابی حاصل کرنے کے بعد مدینۃ پہنچی۔ اس کامیابی نے ایک طرف تو بیرونی قوتوں کے دل پر عربوں کا خوف بٹھا دیا اور دوسری طرف اندر ونی شورش پسندوں کو مسلمانوں کی قوت کا تلقین ہو گیا۔

میلہ، اسود عسنی، طلیمہ بن خویلہ اور سجاد بنت خویلہ مدعاں نبوت میں سے تھے ان مدعاں نبوت کی قوت توڑنے کے بعد مرتد قبائل کا استیصال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی منکرین زکوٰۃ کی تادیب کی گئی۔ شورش پندوں کی سکونی کرنے کے بعد خالد بن ولید مدینہ آ رہے تھے کہ انہیں عراق جانے کا حکم دیا گیا۔ شمال مشرقی عرب میں شورش دبانے کے دوران میں حیرہ کی ریاست کے بدودی قبائل سے بھی مسلمانوں کا تصادم ہو جاتا تھا۔ حیرہ کی عرب ریاست پر ایران کا اقتدار تھا۔ اس تصادم کا ایرانی حکومت پر عمل یقینی تھا چنانچہ خالد بن ولید نے حیرہ پر قبضہ کر لیا۔ اب ایرانی حکومت کو خطرے کا احساس ہوا چنانچہ عربوں کو کلدہ سے نکلنے کے لیے ایک بہت سے بڑی فوج بھی گئی۔ اسی آنامیں خالد بن ولید کو شام کی مهم پر بھیجا چکا تھا۔ ایرانیوں کی فوج کی نیغار کی خبر پاکر مثنی لکھ حاصل کرنے کے لیے دینہ پہنچا

### حضرت ہزار وق

انی ایام میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو چکا تھا اور ان حضرت ہزار وق کی جگہ حضرت عمر بن حیان (۶۳۴ھ - ۶۴۴ھ) خلیفہ تسلیم کیے جا چکے تھے۔ آپ نے ابو عبید کی کمان میں عراق کی مهم کے لیے لکھ بھی۔ ابو عبید نے مثنی کے مشورے کے بغیر ایک مقام پر ایرانیوں سے لڑائی شروع کر دی، جس میں عربوں کو شکست ہوئی۔ ابو عبید بھی اسی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ اب مثنی نے بڑھ کر پھر حیرہ پر قبضہ کر لیا۔ ایران اور عرب ایک دوسرے سے مکر لینے کی پوری تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایرانی فوج کی کثرت کی بنا پر مثنی کو پھر حیرہ پھوڑنا پڑا۔ اب عرب فوج صحراء میں لکھ کا انتظار کرنے لگی اسی آنامیں مثنی کی موت واقع ہو گئی۔ اب سعد بن وفاصل کمک کے کر پہنچ گئے۔ انہیں عراقی محاڈ کا کمانڈر بنادیا گیا۔ سعد بن وفاصل کی فوج کے پاہیوں کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ قادسیہ کے میدان میں تین دن تک شدید لڑائی ہوتی رہی چوتھے دن ایرانی جنیل میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ قادسیہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد کلدہ اور عراق پر عربوں کا پورا پورا قبضہ ہو گیا لیکن کلدہ پر اس وقت تک مستقل قبضہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ملائیں

میں مہران اپنی فوجوں سمیت ڈیرے ڈالئے موجود تھا۔

اِدھر قاویہ میں عربوں اور ایرانیوں میں فیصلہ کن رڑاٹی ہو رہی تھی اُدھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رڑاٹی کا تیجہ سُننے کے لیے ہر روز مدینہ سے باہر نکل کر قاصد کا انتظار کرتے۔ آخر ایک دن سعد بن وقاص کا قاصد نہایت تیزی سے مدینہ کی طرف آتے ہوئے انہیں مل گیا۔ آپ نے قاصد سے قاویہ کی رڑاٹی کے حالات پوچھے، قاصد چونکہ جلد از جلد امیر المؤمنین تک پہنچنا چاہتا تھا اس لیے وہ سواری پڑی سے حالات بیان کرتا گیا اور حضرت سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے تھے۔ جب سوارا اور پیادہ دونوں شہر میں داخل ہوئے تو قاصد کو یہ جان کر بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑنے والے امیر المؤمنین ہی تو تھے۔ گوئی بات نہیں، تم حالات سناتے جاؤ۔ امیر المؤمنین نے اپنے چرنیل کے قاصد سے فرمایا۔ قاویہ میں شکست کھانے کے بعد ایرانی فوج بابل میں جمع ہو گئی تھی۔ سعد بن وقاص نے ایرانیوں کو شکست دے کر بابل پر قبضہ کر لیا۔ اب ایرانی چرنیل مہران، مدائن کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ ہر زمان اہواز کی طرف بھاگ نکلا، فیروزان، ایرانی سلطنت کے خزانوں کی حفاظت کے لیے نہادند کی طرف چل دیا۔

کہ اب سعد بن وقاص ایران کی راجدہانی مدائن کی طرف بڑھا۔ مدائن، وجہ کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا تھا۔ مغربی حصہ سلوشیا کہلانا تھا اور مشرقی حصہ کامام طیفون تھا۔ دونوں شہروں کو ملا کر مدائن کہا جاتا تھا۔ عرب کے صحرائی اب مدائن کے شاہی محلات کی طرف بڑھے۔ ایرانیوں نے عربوں کو روکنے کے لیے وجہ کا پل توڑ دیا۔ سعد بن وقاص نے اللہ اکبر کا نصرہ بلند کر کے اپنا گھوڑا وجہ میں ڈال دیا، ہزاروں گھوڑے وجہ میں اتر پڑے۔ ان زندہ کشتیوں کو دیکھ کر ایرانی فوج مدائن سے بھاگ نکلی۔ عرب فوجیں شاہی ایوان میں داخل ہوتیں۔ طاق کسری میں پڑے ہوئے شاہی شخت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک سادہ منبر نصب کر کے مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ شاہی ایوان کا ساز و ساز مدائن سے مدینہ پہنچا دیا گیا۔

ایران کا مشہور و معروف قالمین "فرش بہار" ہنگڑے مکڑے کر کے عوام میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ منتظر کتنا عترت ناک ہو گا جب امیر المؤمنین کے حکم سے نو شیروان کا شاہی لباس مدینہ کے ایک معمولی انسان کو پہنا یا گیا۔

سعد بن وقاص نے مدائین کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنانے کے عراق کا نظم و نسق شروع کر دیا، لیکن شاہ ایران ابھی عربوں سے ایک مرتبہ پھر لڑنا چاہتا تھا چنانچہ مدائین سے پچاس میل شمال مشرق میں جلو لا میں دونوں فوجیں متصادم ہوئیں۔ ایرانیوں نے پھر شکست کھاتی جلوان پر عربوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ایران اور عرب میں صلح ہو گئی۔ اب عربوں نے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق اور نئے شہر بسانے کی طرف توجہ کی۔ شط العرب کے کنارے بصرہ آباد کیا گیا۔ فرات کے مغربی کنارے پر کوفہ بسایا گیا۔ ان دونوں شہروں کو نقشوں کے مطابق آباد کیا گیا۔ گلیاں اور بازار سیدھے تھے اور دونوں شہروں میں باغوں کی کثرت تھی۔

صلح کے زمانہ میں بھی ایران کی طرف سے فوجی سرگرمیاں جاری رہتی تھیں یزد جرود شاہ ایران نے پھر فتحیہ کیا کہ عربوں سے ایک مرتبہ پھر زور آزمائی کرے چنانچہ ایران میں ٹپے زوروں سے جنگی تیاریاں ہونے لگیں جب ان تیاریوں کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں سے مزید مکث بھیجی گئی۔ نہادند کی لڑائی (۲۴۶ھ) میں ایرانیوں کی کمرٹوٹ گئی۔ دارالکتب طرح یزد جرود بھی ایک جگہ سے دوسرا جگہ سرچھپا تا پھراہ بیان تک کر ترکستان کے ایک دورافتادہ گاؤں میں قتل ہوا۔ نہادند کی لڑائی کے بعد عربوں اور ایرانیوں میں چند ایک معرکے ہوتے ہیں میں ہر مرتبہ ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ ایران اور ایرانی سلطنت کے کئی صوبوں پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ عراق کی طرح ایران کے کسانوں کو بڑے بڑے چاگیرداروں (دہقانوں) سے رہائی دلانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ مالیہ کی شرح کو پہلے سے کم کیا گیا۔ پرانے اور ٹوٹے ہوتے تالابوں کی مرمت کرائی گئی۔ ضرورت کے مطابق نئے تالاب بھی بنواتے گئے۔ ایرانی رعایا کو ذوق اور ضمیر کی آزادی دی گئی۔ مسلمانوں کو ایرانیوں کے مذہبی معاملات میں دخیل ہونے سے روکا گیا۔

ایرانیوں کی بیشتر آبادی نے اسلام قبول کر لیا عربوں اور ایرانیوں میں ازدواجی تعلقات قائم ہو گئے تک ایرانیوں کو عجبی کرنے والے عربوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ہونے والے ایرانیوں کو موال (دوست) بنادیا۔

اسامہ بن زید کی ابتدائی مہم کے بعد شام کے قبائلیوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں اس زمانہ میں عراق اور کلده کے مغربی علاقے مشرقی رومی سلطنت رہا (لٹیجنی) میں شامل تھے۔ عراق کی طرح شام اور فلسطین میں بھی شامی نسل کے لوگ آباد تھے۔ دمشق، حمص، حلب، افطایہ اور شام کے دوسرے شہروں میں رومنیوں کی چھاؤنیاں تھیں۔ اسی طرح فلسطین کے شہروں میں یہ شلم، حسکلان، غازہ اور جافہ میں رومنیوں کی مضبوط چھاؤنیاں تھیں۔ خلیفہ اول نے شام پر چڑھاتی کرنے کے لیے چار فوجیں بھیجیں، دمشق کی مہم پر زید بن ابوسفیان، حمص کی مہم پر ابو عبدیہ بن جراح، اردن کی مہم پر جبل بن حسنة اور فلسطین کی مہم پر عمر بن عاص مامور کیے گئے۔ اس سارے محاڈ کی کمان ابو عبدیہ بن جراح کے ہاتھ میں رکھتی ان چار ڈوڑیزوں کی مجموعی تعداد تیس سو ہزار سے کچھ کم تھی، رزی و فوج کی کمان معاویہ بن ابوسفیان کے پروردھ تھی۔

مشرقی رومی سلطنت کی راجدہانی قسطنطینیہ میں رکھتی۔ بہت سے مقبوضات چھپن جانے کے باوجود سلطنت بہت طاقتور تھی۔ عرب فوجوں کی روک تھام کے لیے رومی شہنشاہ، قسطنطینیہ چھپوڑ کر حمص میں آگیا تھا۔ یہاں سے اس نے عرب فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے چار جرنیلوں کے ماتحت مختلف سمتیوں میں فوجیں بھیجیں رومنیوں کے اس اقدام کے پیش نظر عرب جرنیلوں نے رومنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ اپریل ۳۶۴ء میں عرب فوجیں یہاں کے کنارے جمع ہو گئیں۔ اسی اثناء میں عربوں نے جن علاقوں کو فتح کر کے دہان سے جزیرہ وصول کیا تھا وہ رقم دہان کے لوگوں کے حوالے کر دی۔ مقامی آبادی عربوں کے اس طرز عمل سے اتنی تاثر مہلی کہ وہ ان کی واپسی کے لیے

آنسو بھاگر دعائیں کرنے لگی۔

یرموک کے کناروں پر دونوں فوجیں نے ڈیرے ڈال رکھتے تھے۔ دو مہینوں تک کوئی تفاہم نہ ہو سکا۔ دونوں فوجیں اپنے جنگی ذرائع کو مضبوط کر رہی تھیں۔ اسی آنٹا میں خلیفہ اول نے خالد بن ولید کو کلذہ سے شام کے محاذ کا کمانڈر بنانے کر بھیجا۔ خالد بن ولید کے پہنچ جانے کے بعد رذاقی شروع ہو گئی۔ رومیوں کو شکست ہوئی۔ ایک لاکھ چالسی هزار رومی سپاہی مارے گئے۔ اس فتح سے جنوبی شام پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ یرموک کی لڑائی سے چند دن پہلے خلیفہ اول کا استقالہ ہو چکا تھا۔ خلیفہ دوم نے خالد بن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو سارے محاذ کا کمانڈر مقرر کیا۔ ایک ایک کر کے شام کے شہروں پر عربوں کا قبضہ ہونے لگا۔ پہاں تک کہ ابو عبیدہ نے شمالی شام پر قبضہ کر لیا۔ اسی آنٹا میں عمر بن عاص کی فوجیں فلسطین کے کئی شہروں پر قبضہ کر چکی تھیں۔ اخبار دین کی رذاقی میں رومیوں کو پھر شکست ہوئی۔ اب پچھے کچھ رومی سپاہی عربوں سے لاطنے کے لیے یروشلم (بیت المقدس) میں جمع ہو گئے۔ عربوں نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر یروشلم کے بطریق نے اس شرط پر شہر کو حوالے کرنا چاہا کہ خود امیر المؤمنین بیت المقدس پہنچ کر معاہدے پر دستخط کریں امیر المؤمنین کو اس کی اطلاع دی گئی۔

مدینہ کی مجلس مشاورت میں اس امر پر بحث ہوئی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ امیر المؤمنین یروشلم روانہ ہوں۔ امیر المؤمنین کے سفر کی سادگی ایران اور مشرقی شہنشاہوں کے جلسوں سے زیادہ شاندار اور متور تھی۔ سنتو، چھپو ہارے، پانی کی ایک مشک اور لکڑی کا ایک پیالہ۔ یہ تھا امیر المؤمنین کا زاد راہ۔ دنیا کی کوئی شان و شوکت کو اس سے سادگی پر قربان نہیں کیا جاسکتا ہے جاب یہ میں معاہدہ کرنے کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح اور فوج کے دوسرے افسر بیت المقدس سے پچھوڑ دنکل کر آپ کا استقبال کرنے لگتے۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں

ادنٹ کی مبارہ ہے اور امیر المؤمنین کا غلام اپنی مقرہ باری کے مطابق ادنٹ پر سوار ہے  
دل ملادینے والا منتظر!

سلام و پایام کے بعد عرب کے فوجی سرداروں اور رومیوں کو شکست دینے والے  
عرب جرنیلوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ امیر المؤمنین اپنا وہ لبادہ آثار دیں جس پر  
نامعلوم کب سے پیوند لگ رہے تھے۔ ہماری عرفت صرف اسلام میں ہے اور وہی  
ہمارے لیے کافی ہے امیر المؤمنین کے ان الفاظ نے مدینہ سے بہت رُور پہنچ ہوتے  
عرب جرنیلوں کو خاموش کر دیا۔ بطریقِ اعظم اور امیر المؤمنین بیت المقدس کی پُرانی  
یادگاروں کا نظارہ کرتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ بطریقِ اعظم نے کنیسه  
کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کہا لیکن آپ نے کنیسه کی سیڑھیوں پر نماز ادا کی چند دن  
بیت المقدس میں رہنے کے بعد آپ مفتوحہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے  
شام سے ملحت مصر تھا۔ وہی پرانا مصر! فرعون کا مصر! اہرام کا مصر! بطیموس  
کا مصر! کلوپرزا کا مصر! مصر، مشرقی رومی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ اس سلطنت میں  
مصر کے کاشتکار، غلاموں کی زندگی سبر کرتے تھے۔ عوام کے حکمران ان کے خدا بنتے ہوئے  
تھے یہ خدا صدیوں سے اپنے بندوں کے حقوق دباتے بیٹھے تھے۔ عربوں نے عراق  
ایران اور شام کے عوام میں جو بیداری پیدا کر دی تھی اس کے اثرات سے بوڑھے  
نیل کی وادی کیونکہ بسی سکتی تھی؟ قسطنطینیہ کا شہنشاہ اب مصر کو اس انقلاب سے دُور  
رکھنا چاہتا تھا، جس کے مقابلہ میں وہ کتنی بار شکست کھا چکا تھا۔

غم دبن عاصی چار ہزار سپاہیوں کو لے کر مصر پر چمٹا اور ہوا۔ مصر کے کلیداری شہر فرمایا پر  
قبضہ کرنے کے بعد عرب فوج قدیم شہنشاہوں کی یادگاری مفس کی طرف ٹھی۔ اسکندریہ کی  
ساحلی پوزیشن اور اس شان و شوکت نے مصر کے اس پانے دار الحکومت کے محلوں  
اور مندروں کو کھنڈروں میں بدل دیا تھا۔ تاہم وہ اس وقت تک مصر کے ٹرسے شہروں

میں شمار ہوتا تھا۔ سات ماہ تک عربوں نے مفس کے قلعہ کا محاصرہ کیا رکھا۔ آخر عربوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ کھنڈروں کے قریب عربوں نے خیوں کا ایک نیا شہر بسایا جو بعد میں فسطاط کہلاتا ہے۔

رومی فوجیں اسکندریہ میں جمع ہو رہی تھیں۔ عرب بھی اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ مصری عوام کے دلوں پر قبضہ کیے بغیر مفس سے اسکندریہ تک کی فوجی میغار ناممکن نہیں تو دشوار صورت تھی۔ مصریوں نے عربوں کی اس نئی مہم میں ان کی ہر امکانی امداد کی۔ اسکندریہ مشرقی رومی سلطنت کی دوسری راجد ہانی تھی۔ قیصر نے اسے بچانے کے لیے پوری قوت حرف کر دی، لیکن اسکندریہ پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسکندریہ کی شان و شوکت کا اندازہ عمر بن عاص کے اس خط سے لگایا جاسکتا ہے جو اسکندریہ کی فتح کے بعد اس نے امیر المؤمنین کو لکھا تھا "میں نے مغرب کے بڑے شہر کو فتح کر لیا ہے۔ اسکندریہ کی دلت اور رخانی کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ میں صرف اتنا بیان کرنے پر قناعت کر دوں گا کہ اس شہر میں چار ہزار محل، چار ہزار حمام اور چار ہزار تماشہ گاہیں ہیں"۔ امیر المؤمنین نے اپنے جواب میں اسکندریہ کو لوٹنے والے یا غارت کرنے کی ممانعت کر دی۔

اسکندریہ پر قبضہ ہوتے ہی تقریباً سارے مصر عربوں کے قبضہ میں آگیا۔ مصر پر پوری طرح سے قبضہ کرنے کے بعد عمر بن عاص نے امیر المؤمنین کو اپنے ایک طویل خط میں مصر کے تمدنی اور جغرافیائی حالات بتاتے۔ اس خط کے ان الفاظ سے مصر کے عوام کی تقدیر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ عینل کی طغیانی کے بعد زرخیز مٹی تھی میں رہ جاتی تھی جس میں مختلف بیج بوتے جاتے ہیں۔ کسانوں کی بہت بڑی جماعت جس سے زمین تاریک اور سیاہ ہو جاتی ہے۔ چینویں کی طرح کام میں مشغول ہو جاتی ہے... لیکن اس محنت سے بجود دلت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہاں کے کسانوں اور جاگیرداروں میں برابر برابر نہیں باٹتی جاتی۔

امیر المؤمنین نے اپنے احکام سے مصر کی زمین کو مصر کے کسانوں میں باشنا اور عربوں کو مصر میں کاشت کے لیے زمین خریدنے سے منع کر دیا۔ عربوں کے لیے کھٹی بڑی کو منسوب قرار دے دیا۔ مصر کی زرعی ترقی کے لیے غیر آباد رقبوں کو زیر کاشت لا یا گیا، جو مصر کسی غیر آباد زمین کو آباد کرتا وہ زمین اس کی ملکیت ہو جاتی۔ آب پاشی کے لیے مصر میں بہت سی نئی نہریں بنوائی گئیں اور کتنی ایک پرانی نہروں کو صاف کر دایا گیا۔ دریں اُنہا آرمینیہ اور کردستان کے قبائل نے عراق پر حملہ شروع کر دیے تھے۔ چنانچہ ان حملوں کی روک تھام کے لیے کردستان اور آرمینیہ کو فتح کیا گیا۔

۷۰۴ء میں شمالی عرب اور شام میں قحط اور وبا نے سزا کالا۔ ان علاقوں کے لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے امیر المؤمنین کو ایک مرتبہ پھر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ ڈھانپے میں آپ نہایت بہادری سے شام کی طرف روانہ ہوتے۔ پہلے سفر کی طرح دوسرے سفر میں بھی آپ کے ہمراہ صرف ایک خادم تھا۔ آپ نے یوں علم کے بشپے ملاقات کی۔ عیسائیوں کو مزید رعایتیں دیں۔ کمال اور دوبار کے شکار علاقوں کے لوگوں کو حصہ دیتے۔ بچانے کے لیے ہر امکانی کوشش کرنے کے بعد آپ مدینہ والپس ہوتے۔

مدینہ پہنچ کر آپ نظم نستی کے کاموں میں معروف ہو گئے لیکن ایک قاتل نے آپ کی جان پر حملہ کیا جو نبی آپ نے فجر کی نماز شروع کی۔ قاتل نے آپ پر چھوڑا رکیے۔ آپ زمین پر گر پڑے۔ قاتل نے گرفتار ہوتے ہی خود کشی کر لی۔ امیر المؤمنین نے اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا انہیں بتایا گیا کہ قاتل کا نام فیروز تھے۔

”اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل مسلمان نہیں۔“ آپ نے جواب دیا۔

آپ کے عهد خلافت میں مملکت کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ آپ ان صوبوں کے گورنر مقرر کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ آپ کی طرف سے ہر گورنر کو ایک فرمان دیا جاتا جسے وہ گورنرا پنے صدر مقام میں پہنچ کر عام لوگوں میں پڑھ کر سنانا

تھا۔ تمام گورنریوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ نجح کے موقع پر کہ میں جمع ہو کر اپنے اپنے صوبے کے مسائل پر بحث کریں۔ اس کے ساتھ ہی نجح کے موقع پر ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ وہ کسی گورنر کے خلاف شکایت پیش کر سکے۔ گورنریوں کو سادہ زندگی گزارنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ مصر کے گورنر عیاض بن غنم کو قیمتی کپڑے پہننے اور محل بنوانے کی بنا پر کبیل کا کرنہ پہنوا کر بکریاں چردانے کی سزا دی گئی۔ کوفہ کے حاکم نے اپنے مکان کی ڈیورٹھی میں دربان مقرر کیا امیر المؤمنین نے اس ڈیورٹھی کو آگ لگوادی۔

اصلاحات اعد والنصاف کے لیے ہر ضلع میں عدالتیں قائم کی گیں ان عدالتوں کے مطابق فیصلہ کریں اگر قرآن میں ایسی صورت نہ ہو تو پھر حدیث کی طرف رجوع کریں اور اگر یہاں بھی کوئی نظر نہ آتے تو پھر اجماع و روزہ اجتہاد سے فیصلہ کریں۔

امیر المؤمنین کے حکم سے مدینہ اور ہر صوبے کے صدر مقام میں بیت المال قائم کیے گئے اور ان پر نہایت دیانتدار ایمان مقرر کیے ہر صوبے کی آمدی مقامی بیت المال میں جمع ہوتی تھی۔ نظم و نسق کے افراجالات سے جو رقم بچ سکتی تھی اسے مدینہ کے بیت المال میں بچ دیا جاتا تھا۔ اس مرکزی بیت المال کے امین، امیر المؤمنین تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال کا اوٹ کہیں بھاگ گیا آپ اس کی تلاش میں نکلے۔ سامنے سے ایک عرب سردار آ رہا تھا۔ آپ نے اسے بھی تلاش میں مدد دینے کے لیے کہا "امیر المؤمنین اس کام کے لیے کسی غلام کو حکم دیا ہوتا" راہ میں کسی دوسرے نے کہا "مجھ سے بڑھ کر اور کون غلام ہو سکتا ہے" امیر المؤمنین نے جواب دیا۔

بیخاری کی حالت میں آپ کے لیے شہید تحریک کیا گیا۔ بیت المال میں شہید موحد تھا۔ آپ نے مسجد نبوی میں جا کر لوگوں سے یہ کہا کہ وہ انہیں بیت المال سے تھوڑا سا شہد یہنے کی اجازت دیں۔ آپ کو اپنی تیسم بختی سے بہت محبت تھی۔ ایک دن جب کہ آپ

بیت الال کا معاشرہ کر رہے تھے کہ اس حضوری بھی نے زیورات میں سے یونہی ایک انگوٹھی انٹھا کر پین لی جب آپ کی نظر بھی کی انگلی پر پڑی تو آپ بہت دیر تک بھی سے دل بہلا دے کی با تینیں کرتے رہے ہیں تک کہ آپ نے چکے سے بھی کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر چاندی اور سونے کے اُس ڈھیر میں بھینک دی جس کے آپ امین تھے۔

امیر المؤمنین خلیفہ دوم نے اپنی رحلت سے پہلے چھار کان پر شتمل ایک کمیٹی نامزد کی تھی تاکہ اس کمیٹی کے ارکان اپنے میں سے جسے چاہیں خلیفہ چن لیں۔ عثمان بھی اس کمیٹی کے ارکان میں سے تھے۔ کمیٹی نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا۔

### حضرت عثمان (۶۴۵-۶۵۵ء)

آپ کے عہدِ خلافت میں اسکندریہ کے رومیوں نے بغادت کی لیکن عمر بن عاص نے اسے فروکر دیا۔ چونکہ مصریوں نے اس بغادت میں رومیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے انہوں نے بجا گئے وقت مصریوں کو خوب لوٹا۔ معاویہ نے ایشیا تے کو چک کا بہت سا حصہ فتح کر کے دہان کے کتنی مقامات میں عربوں کی نوا آبادیاں قائم کیں عربوں نے طرابلس، الجیریا، تولنس اور مرکش فتح کیے۔ شام کے گورنر معاویہ نے جزیرہ قبرص کو فتح کیا۔ یزدجر دنے اپنے کھوتے ہوتے تھت کو پھر آخری مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ابن عامر نے یزدجر کے ارادوں کو ناکام بنایا۔ جرجان اور طبرستان بھی فتح ہوتے خراسان پر قبضہ ہوا۔ کرمان اور سجستان بھی میطع ہوتے۔ غزنی سے کابل کا درمیانی علاقہ عبد الرحمن نے فتح کیا۔ عربوں نے معاویہ کی کمان میں مشرقی رومی سلطنت کی راجدہانی، قسطنطینیہ پر چمک کیا۔ عثمانی خلافت کے عہد میں عربوں کی فتوحات ہندوستان کی سرحدوں سے ہسپانیہ کی سرحدوں تک پھیل گئیں اور اس دور میں عربوں نے مشرق میں ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مغرب میں ہسپانیہ کے دروازے پر دستک دی۔

غیر ملکی فتوحات کے بڑھنے کے ساتھ ہی ان مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق کے لیئے نئے

گورنرول کی ضرورت تھی۔ خلیفہ سوم نے اپنے خاندان (ویسیع معنوں میں) کے افادہ کرنے سے صوبوں کا گورنر مقرر کیا اور اس کے ساتھ ہی فاروقی دور کے پیشتر گورنرول کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر مقرر کیا۔ ان گورنرول نے بعض ایسے کام کیے جس سے ایک طرف تو مفتوحہ اقوام کو شکایت کا موقع ملا اور دوسری طرف وہ عرب تبدیلے جو غیر ملکی فتوحات میں برابر کے شریک تھے اور جن کے افادہ کو بڑے بڑے عہدوں پر مہور نہیں کیا گیا تھا۔ خلیفہ سوم کے مقرر کردہ نئے گورنرول سے شاکی ہوتے چلے گئے۔

ان شکایات کو خلیفہ سوم تک پہنچایا گیا۔ مختلف صوبوں سے کئی ایک وفد اپنی اپنی شکایات لے کر مدینہ پہنچے۔ ان وفدوں کو شکایات رفع کر دیے جانے کا تین دلائل پر کردیا گیا۔ راہ میں انہوں نے ایک ایسے قاصد کو پکڑ لیا جس کے پاس مروان کا لکھا ہوا ایک خط تھا۔ اس خط میں مختلف صوبوں کے گورنرول سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنے صور کے وفد کے ارکان کو قتل کر دیں۔ یہ خط مروان کا لکھا ہوا تھا۔ لیکن اس پر خلیفہ سوم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ وفدوں کے ارکان والیں ہوتے۔ انہوں نے مروان کران کے حوالے کر دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مسعودی سمجھیان کے مطابق اس مطالبہ میں اموی خاندان کے افادہ بھی ان وفدوں کے ساتھ متفق تھے۔ خلیفہ سوم نے مروان کو ان لوگوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ سوم نے مروان کے لئے ہوتے خط کے بارے میں کہا کہ ”یہ خط میرے حکم سے نہیں لکھا گیا اور نہ ہی میں اس کے متعلق جانتا ہوں۔“ اب ان لوگوں نے جن کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ خلیفہ سوم کی خلافت سے دست برداری کا مطالبہ کرنا شروع کیا اور خلیفہ سوم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثنامیں اموی خاندان کے بہت سے لوگ خلیفہ سوم کو خطرات میں گھرے ہوتے چھوڑ کر مدینہ سے دمشق چلے گئے۔

ایک دن آپ نے محاصری سے خطاب کرتے ہوتے کہا ”لوگو! میرے قتل ہا کیوں

ارادہ کیسے ہوتے ہو، میں تمہارا دالی اور حکمران ہوں بخدا جہاں تک میرے بس میں تھامیں نے اصلاح کی کوشش کی چونکہ میں انسان ہوں اس لیے اصابت راتے کے ساتھ لغزشیں بھی ہوتیں، لیکن یاد رکھو اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر قیامت تک نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ تنگ کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کے گھر میں داخل ہو کر باغیوں نے آپ کی زندگی کو ختم کر دیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ شہر پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ دو دن تک خلیفہ سوم کی نعش پے گور و کفن پڑھی رہی۔ تیسرے دن آپ کی تدفین کی گئی۔

**حضرت علیؑ** حضرت عثمانؓ کے بعد مدینہ کے اکابر نے حضرت علی (۶۵۶-۶۴۷) کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ نے ان تمام گورنروں کی معزولی کا حکم جاری کر دیا جن کے خلاف شکایات تھیں۔ معاویہ کو بھی معزولی کا حکم بھیجا گیا لیکن معاویہ نے آپ کا حکم مانتے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت علیؑ نے شام پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی اثنامیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضیتھ میں سے بصیرہ پہنچ کر خلیفہ سوم کے فاتحوں سے قصاص کی دعوت دے رہی تھیں۔ چنانچہ حضرت علیؑ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ام المؤمنینؓ اور امیر المؤمنینؓ کی فوجیں میں لڑاتی ہوئی۔ ام المؤمنینؓ ایک اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ کے محمل پر ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اونٹ زخمی ہو کر گر پڑا۔ اونٹ کے گرتے ہی امیر المؤمنینؓ نے لڑاتی بند کر دیئے کا اعلان کر دیا ام المؤمنینؓ کو پوری حفاظت اور احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا گیا۔ جنگِ محمل کے بعد امیر المؤمنینؓ نے مدینہ کی جگہ کوفہ کو مرکز خلافت بنالیا۔ اس تبدیلی کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ امیر المؤمنینؓ کے حامیوں کی سب سے زیادہ تعداد عراق میں تھی۔

کوفہ پہنچ کر امیر المؤمنین نظر و نسق میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے معاویہ کو صیحت کرنے کی دعوت دی۔ دمشق کی مسجد میں ہزاروں مسلمان قتل عثمانؓ کا قصاص لینے کی قسم

کھا چکے تھے۔ کوفہ کی مسجد میں دس ہزار مسلمان یہ نفرہ لگا رہے تھے کہ تم عثمان کے قاتل میں۔ دمشق اور کوفہ میں لڑائی ناگزیر ہو چکی تھی لڑائی ہو کر رہی۔ امیر المؤمنین اسی ہزار سپاہیوں کی فوج کے کر شام کی طرف بڑھے۔ معاویہ بھی اپنی فوج کے کر دمشق سے روانہ ہو چکے تھے۔ فرات کے کنارے صدیفین کے میدان میں لڑائی ہوتی۔ یہ لڑائی کئی جیتنے ہوتی رہی۔ ابو الفدا کے بیان کے مطابق اس لڑائی میں پینتالیس ہزار شامی اور پچیس ہزار عراقی کام آئے ایک معزک میں شامیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اب انہوں نے قرآن مجید کے اور اق کو نیزوں پر آویزاً کر کے یہ نفرے لگانے شروع کیے "عرب! اپنی خورتوں اور بچوں کو ایران اور روم سے بچاؤ" "قرآن کو حکم بناؤ"! اگر شامی ختم ہو گئے تو شام کو رومیوں سے کون بچاتے گا؟ اگر عراقي ختم ہو گئے تو عراق کو ایرانیوں سے کون بچاتے گا؟ "قرآن کو حکم بناؤ"!

امیر المؤمنین کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص کو حکم مقرر کیا گیا تاکہ وہ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں وہ دونوں فریقوں کے لیے قابل تسلیم ہو۔ دوستہ الجندل میں فیصلے کا اعلان کیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے منبر پر سے کہا "ہم اصلاح ملت کی اس سے بہتر کوئی صورت دکھاتی نہیں دیتی کہ علیؑ اور معاویہ و دونوں کو معزول کر کے خلافت کو شوریٰ پر چھوڑ دیا جاتے اس لیے میں ان دونوں کو معزول کرتا ہوں" "عمرو بن العاص نے منبر سے کہا" ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ میں چکے ہو۔ میں معاویہ کو خلافت کا مستحق سمجھتا ہوں کیونکہ وہ امیر المؤمنین عثمانؑ کے قصاص کے طالب اور ولی ہیں"

عراقيوں کی ایک جماعت ابتداء میں شیخیم کی حامی تھی لیکن معاهدہ شیخیم کے بعد یہ جماعت شیخیم کی مخالفت ہو گئی۔ تاریخ میں یہ جماعت خوارج کہلاتی ہے۔ اس جماعت کے ہزاروں اشخاص نیروں میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت علیؑ کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ نیروں میں لڑائی ہوتی۔ خوارج "لا حکم الا اللہ" کے نفرے لگا کر لڑاتے رہے ہے یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے مار رے گئے۔ خوارج کو شکست دینے کے بعد حضرت علیؑ شام

کا قصد کرنا چاہتے تھے لیکن اس مہم پر صرف ایک ہزار اشخاص کو اپنے ہمراہ جاتا دیکھ کر کونہ چلے گئے۔

معاویہ نے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد عراق اور حجاز کے کئی ایک شہروں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہروں کے لوگوں سے معاویہ کے امیر المؤمنین ہونے کی بیعت لی جاتی تھی۔ مدینہ اور مکہ میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ کئی شہروں میں عراقیوں اور شامیوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں یہاں تک کہ دونوں فریقوں میں مصالحت کی بات چیت شروع ہو گئی۔

نہروان میں شکست کھانے کے بعد خوارج نے اپنی سرگرمیوں کو خفیہ طور پر جاری رکھا اس جماعت کے تین افراد نے فیصلہ کیا کہ وہ مقرر وقت پر حضرت علی، معاویہ اور عمر بن العاص کی جانوں پر چلے کریں گے۔ یہی ہوا۔ عمر بن العاص کی جگہ ایک دوسرا شخص مارا گیا۔ معاویہ کو معمولی زخم آیا، حضرت علی کو کاری زخم آیا۔ زخمی ہونے کے تیرے دن بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

## پاپچوال باب

### کوفہ اور دش

حضرت علیؑ کے بعد آپؐ کے ٹرے بیٹے حضرت حسنؑ اپنے بابؐ کے جانشین ہوتے قیس بن سعد کی بیعت کے بعد تمام عراقیوں نے آپؐ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی اثنامیں شامی فوجیں عبداللہ بن عامر کی قیادت میں مدائمین کی طرف بڑھیں۔ حضرت حسنؑ نے قیس بن سعد کو بارہ ہزار سپاہی دے کر شامی فوج کے مقابلہ کے لیے بھجا اور خود مدائمین میں رہنے مدامین کی فوج میں قیس بن سعد کے قتل کردیے جانے کی افواہ اڑگتی۔ اس پر عراقی سپاہیوں نے حضرت حسنؑ کے خمیرہ رچملہ کر کے اس کے سامان کو لوٹ لیا۔ عراقیوں کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر آپؐ سمجھوتے کی بات چیت پر رضامند ہو گئے حضرت حسنؑ اور امیر معاویہ میں جو معاہدہ ہوا اس کی دفعات کے متعلق متعدد مورخوں میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس معاہدے کے بعد حضرت حسنؑ کو فہرست گئے۔ امیر معاویہ نے کوفہ پہنچ کر اس معاہدے کی شرطوں کی زبانی تصدیق کر دی۔

حضرت حسنؑ نے ایک عام اجتماع میں اپنی دست برداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ "خلافت میرے اور معاویہ کے درمیان تنار عدالت ہے لیکن میں آپؐ لوگوں کی خونزینی سے بچنے کے لیے اس سے دست بردار ہوتا ہوں"۔ اس اعلان کے بعد آپؐ کوفہ سے مدینہ پلے گئے۔ قیس بن سعد اور امیر معاویہ میں بھی صلح ہو گئی۔ قیس بن سعد نے جو شرطیں پیش کی تھیں امیر معاویہ نے ان سب کو مان کر ایک بہت بڑے مدبر اور

جنہیں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔

دست برداری کے نو سال بعد آپ نے مدینہ میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر جب مردان آنسو بہار ہاتھا حضرت حسینؑ نے اس سے کہا کہ زندگی میں تم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا اور اب ان کی موت پر وہ تھے ہو۔” مردان نے پھاڑکی جانب اشارہ کرنے ہوئے کہا کہ ”میں نے جو کچھ کیا اس سے بھی زیادہ برداشت انسان کے ساتھ کیا۔“ آپ کی دست برداری کے بعد مسلمانوں کی امارت امیر معاویہ کے پاس چل گئی۔ اس امارت کا مرکز کوفہ کی جگہ دمشق بن گیا۔

پچھلے کئی سال سے دمشق امیر معاویہ کی صوبائی حکومت کا صدر مرکز تھا۔ جدید امارت نے دمشق کو ساری عرب مملکت کا صدر مقام بنایا۔ شام کی گورنری کے زمانہ میں معاویہ ہی نے رومی ہملوں کی روک تھام کے لیے شام کی سرحدوں کو مضبوط کیا۔ سمندری بڑا بند کر شام کی بحیری حفاظت کا انتظام کیا۔

امیر معاویہ کے عہد حکومت (۶۴۱ء) کا آغاز شورشوں کے رفع کرنے سے ہوا۔ اس زمانے میں تین ٹبی ٹبی سیاسی پارٹیاں تھیں۔ ایک پارٹی بنو امیہ کی حامی تھی، دوسرا پارٹی خلافت کو صرف اہل بیت کا حق سمجھتی تھی۔ تیسرا ان دونوں پارٹیوں کے سیاسی خیالات سے مختلف تھی۔ ڈہ بنو امیہ اور اہل بیت دونوں کی مخالف تھی۔ اس پارٹی کے ارکان خوارج کہلاتے ہیں۔ خارجیوں نے عراق میں شورش کی لیکن امیر معاویہ نے ان کا زور توڑ دیا۔ خارجیوں کے علاوہ کئی ایک مفتوجہ ملکوں میں بھی بغاوتیں ہوتیں۔ لیکن انہیں دبادیا گیا۔ داخلی اور خارجی بغاوتوں کے فروہونے کے بعد عرب والوں نے ایک مرتبہ پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔

عقبہ بن نافع شمالی افریقیہ کی فتح کے لیے نکلا۔ اس نے شمالی افریقیہ کے مفتوجہ علاقوں

کے برابریوں کی بغاوتوں کو فروکھیا اور اس کے ساتھ ہی کہی ایک نئے علاقے فتح کیے یونانیوں، رومنیوں اور بربلوں نے عقبہ بن مافع کو شکست دینے اور حرب فوج کے ذرائع رسائل کاٹنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ان سب کو شکست دیتا ہوا اوقیانوس کے کناروں تک جا پہنچا۔ اس محیط بکریاں نے عقبہ کو گر جانے پر محصور کر دیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کے کراپڑی لگا کر اُسے اوقیانوس میں ڈال دیا۔ دُور دُو تک نگاہ دوڑاتی، شاید دوسرا کنارہ دکھاتی پڑے، لیکن کنارہ — وہ بہت دُور تھا۔ عقبہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا "لے خداوند! اگر یہ سندھ رہائی نہ ہوتا تو میں اس سے بھی دُور دراز ملکوں میں تیرنے نام کی عملت کو چھپیلا تا۔"

جب مغرب میں عقبہ بن مافع اوقیانوس کی لہروں کو چیر رہا تھا تو مشرق میں مہلب سندھ کی زبردی وادی کو فتح کرنے میں مصروف تھا۔ مشرقی افغانستان کے علاوہ عربلوں نے بخارا اور سمرقند بھی فتح کیے۔

مشرقی رومی سلطنت کی فوجیں شام اور مصر پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے بار بار سمندری حملے کرتی تھیں۔ امیر معاویہ نے رومنیوں کے سمندری حملے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا سمندری بڑا اتیار کیا تھا۔ اس بڑے نے نہ صرف رومنیوں کو ہر ماہ شکست دی بلکہ سمندر میں آگ کے بڑھ کر انہا طولیہ کے کمی ایک ساحلی جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ اس بڑے نے مالفوس میں داخل ہو کر مشرقی رومی سلطنت کی راجدہانی قسطنطینیہ کا محاصرہ کر لیا۔ رومی سپاہی راجدہانی کی دیواروں پر سے محاصرین پر آگ پھینکتے تھے۔ کمی ماہ کے بعد عربلوں نے قسطنطینیہ کا محاصرہ اٹھایا۔ اس بڑے کی کمان نیزید بن معاویہ نے کی تھی۔ حضرت ایوب الصازی کی قبر اس محاصرے کی یاد سے ہے۔ صدیوں بعد جب عثمانیوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تو انہوں نے آپ کے مزار سے ملحت ایک بہت بڑی مسجد بنوائی۔

**یزید کی جاشنی کا اعلان** امیر معاویہ نے چاہا کہ اپنے بیٹے نیزید کو اپنا جانشین

مقرر کریں چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت لینی شروع کر دی۔ شام اور عراق کے لوگوں نے امیر کے اس فیصلہ کو مان لیا۔ لیکن حجاز یہ فیصلہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ چنانچہ حجاز میں یزید کی جانشینی تسیلیم کرائے کے لیے امیر نے حجاز کا سفر اختیار کیا، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن زبیر، حسین ابن علی اور عبدالرحمن بن ابو بکر نے یزید کو معاویہ کا جانشین ماننے سے انکار کر دیا۔ حجاز سے والپی کے بعد امیر نے اپریل ۶۸ھ میں دمشق میں وفات پائی۔ یزید اس وقت دمشق میں موجود نہیں تھا۔ معاویہ نے اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے جو وصیت لکھوا تھی اس میں اس نے یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ "میں نے دشمنوں کو زیر کر کے سارے عرب کی گرد نہیں تمہارے آگے جھکا دی پہن۔ تمہارے لیے بہت بڑا خزانہ جمع کر چکا ہوں تم ہمیشہ اہل حجاز کے حقوق کی خلافت کرتے رہنا کیونکہ وہی تمہاری بنیاد ہیں۔ حجاز یوں پر مہربانی کرتے رہنا، ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ اہل عراق کی رہنمائی پوری کرنا۔ اگر عراقی مہروز گورنر ہوں کہے تباہ لہ کا مطالبہ کریں تو پھر مان لینا کیونکہ گورنر کا تباہ لہ تلوار کے لیے نیام کرنے سے بہتر ہے، اشامیوں کو اپنا مشیر نہانا، جب کبھی تمہارا دشمن مقابلے پر آتے تو شامیوں کو ان سے لڑانے کے لیے بھیجننا۔ جب وہ دشمن کو خلکست دے لیں تو پھر انہیں والپی بلا لینا، کیونکہ کسی دوسرے مقام پر زیادہ دیر رہنے سے ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔" اسی وصیت میں خلافت کے مسئلہ کو سب نے زیادہ اہمیت دینے کے بعد کہا گکہ خلافت کے مسئلہ میں حسین بن علی، عبد اللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبد اللہ بن زبیر کے علاوہ تمہارا کوئی رفت نہیں، عبد اللہ بن عمر سے کوئی خطرہ نہیں، عامہ مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا، عبدالرحمن بن ابو بکر وہی کریں گے جو ان کے ساتھی کریں گے۔ عبد اللہ بن زبیر وہ شخص ہے جو لمبرٹی کی طرح دکھا وادے کے کرشی کی طرح حملہ کرے گا اگر وہ صلح کرے تو بترا در نہ اس پر قابو پانے کے بعد اُسے زندہ نہ چھوڑتا۔ اہل عراق حسین بن علی کو تمہارے

مقابلہ پر لایں گے۔ ان پر قابو پانے کے بعد ان سے بہت اچھا سلوک کرنا۔ امیر معاویہ کے عہد میں اندر و فی امن قائم ہونے کے بعد غیر ملکی فتوحات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ کتنی نتے علاقے فتح کیے گئے۔ رویوں کے سمندری حملوں کی روک تھام کے لیے ایک بیڑا تیار کیا گیا۔ نتی ضرور توں کے مطابق جہاں نظم و نسق میں نتے محکم کھولے گئے وہاں امارت برج کا نیا عہدہ قائم کیا گیا۔ عربوں کے اس جنگی بیڑے کا پہلا امیر البحر جنادہ بن ابی افیہ تھا۔ اس بیڑے کی ضروریات پوچھی کرنے کے لیے صراور شام کے کتنی ایک ساحلی مقامات پر جہاز سازی کے کارخانے کھولے گئے۔ پرانے قلعوں کی مرمت کے لیے کتنی ایک نتے قلعے بناتے گئے۔ عرب فوجوں نے پہلی مرتبہ پختہ پھینکنے والی توپیں استعمال کیں۔ پرید کے نام سے ڈاک اور خبر رسانی کا ایک باقاعدہ محکمہ قائم ہوا۔ سرکاری کاغذات کی حفاظت کے لیے ایک دیکار ڈافن کھولا گیا۔ کھدائی بارڈی کو فرعون دینے کے لیے بہت سی نہریں کھڈا تی گئیں۔ ان نہروں کی وجہ سے کتنی صوبوں کی زرعی پیداوار بہت بڑھ گئی۔ شمالی اوقیانوس میں قیروان بسایا گیا۔ کتنی ایک مفتوحہ ملکوں میں عربوں کی فراہمیاں قائم کی گئیں۔ غیر مسلم عربوں کو نظم و نسق کے بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ عبید نے پرانی تاریخ اور شاہان ایران کے حالات لکھے۔ یہ عربوں کی تاریخ نگاری کی ابتداء تھی۔ اس ابتداء نے آگے چل کر عربوں کی تاریخ نگاری کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیا۔

### بیزیلہ بن معاویہ (۶۸۰-۶۸۴)

ابن علیؑ، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر سے بیعت لینا تھا۔ بیزیلہ نے نیزہ کے حاکم کے درجے بیعت لینے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ عبد اللہ بن زبیر اور حسینؑ ابن علیؑ مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے گئے۔ مکہ میں قیام کے دوران میں کوفیوں کی طرف سے امام حسینؑ کو کوفہ آنے کی دعوت ملی۔ چنانچہ آپ اپنے خاندان کے ہمراہ مکہ سے کوفہ روانہ ہوتے۔ آپ کی روانگی کی اطلاع دمشق

میں پنج حکی تھی۔ راہ میں آپ کو مسلم بن عقیل کے قتل کی اطلاع ملی۔ آپ کا قافلہ کر بلا کے میدان میں اٹا۔ شامی فوج نے اس قافلہ پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ صلح کی بات چیت بھی ہوتی۔ چونکہ حسین بن علی خدا، زید کی بیعت کرنے پر کبھی رضا مند نہیں ہو سکتے تھے شامی فوج بغیر بیعت لیے انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی لہذا شامی فوج اور حسین بن علی خدا کے شاروں میں لڑائی لقینی ہو چکی تھی۔ ایک طرف صرف ۲۷ شخص تھے اور دوسری طرف چار ہزار مسلح افواج تھی۔ حسین بن علی نے لڑائی سے پہلے خدا سے دعا کرتے ہوئے کہا "تو ہر مصیبت میں میرا سہارا ہے، تو ہر مصیبت میں میری پناہ ہے جب غم سے دل کمزور پڑ جاتا ہے کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں، ساختی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دشمن دشمنی کرتے ہیں تو میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ہر نعمت کا دلی، ہر نیکی کا مالک اور ہر خواہش کا مستحی ہے اس دھماکے بعد آپ نے شامی فوج سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک تقریبی جس میں آپ نے اپنے عراق آنے کے اسباب بیان کرنے کے بعد واپس بیج دیتے جانے کا مطالبہ کیا۔ لیکن شامی فوج نے زید بن معاویہ کی بیعت کرنے کا مقابلہ کیا۔ آپ نے اس مقابلہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو گئی۔ انفرادی مقابلہ کے بعد علم لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک طرف چار ہزار سپاہی تھے اور دوسری طرف بہتر مسافر۔ امام حسین بن علی خوش واقارب اور ساختی ایک ایک کر کے موت سے ہم آخوش ہو چکے تھے۔ امام حسین بن علی اپنے حلوق کو ترکرنے کے لیے فرات کی طرف بڑھے پانی لبوں تک لے جانا چاہتے تھے کہ ان کے ایک تیر لگا۔ فرات سے واپس ہوئے عراقيوں نے انہیں ہر طرف سے گھیریا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کے سایہ میں آپ لٹاتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے خموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ دشمن آگے بڑھے۔ ایک تلوار آپ کی گردان پر تھی۔ عراقي فوج نے اس طرح خون حسین بن علی سے سرزی میں کر بلا کو سینچا۔ آپ کے سر کو ابن زیاد کے پاس کوڑ میں بیج دیا گیا۔ اہل بیت کا قافلہ حضرت ویاس کی تصور یہ بنا ہوا کوفہ کی طرف روانہ تھا۔ کوفہ سے اس

قاولدہ کو دمشق بھیجا گیا۔ اس قافلہ کے آگے امام حسین بن ماسر نیز سے پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ نیزہ اہل کار و ان کے دلوں کو کس طرح زخمی کرتا ہو گا؟ جب یہ قافلہ دمشق میں پہنچا تو وہاں ایک سنگی پیدا ہو گئی، قریب تھا کہ اہل بیت کے حق میں مظاہر سے شروع ہو جاتے اس لیے یہ نیزہ بن معاویہ نے آہل بیت کو دمشق سے جلد از جلد مدینہ بھجوادیا۔ مقرر کردہ محافظوں نے اہل بیت کے پورے احترام کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا۔

جب حادثہ کی خبر مکہ میں پہنچی تو عبد اللہ بن زبیر نے اہل مکہ کو یہ نیزہ کی مخالفت پر آمادہ کیا۔ اس آنامیں یہ نیزہ نے ابن زبیر کی گرفتاری کے احکام جاری کر دیے تھے، لیکن کہ اور مدینہ دونوں یہ نیزہ کے خلاف ہو چکے تھے۔ ججاز کے لوگوں کی اکثریت نے ابن زبیر کے ماتحت پر بیعت کر لی تھی۔ اب یہ نیزہ کے دس ہزار سپاہیوں نے ججاز پر حملہ کر دیا۔ حرہ کے مقام پر مدینوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ شامی فوج کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی۔ اس لیے شامی فوج جیت گئی۔ اس لڑائی نے مدینہ کو بڑے بڑے مقتدر صحاپہ کرام سے محروم کر دیا۔ وہ شہر ہبہاں رسول خدا نے ہجرت کی اور جسے اپنا مسکن بنایا اب شامیوں کی لوٹ مار کا شکار ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، مدرسون اور ہسپتاوں کو جلا دیا گیا۔ تین دن تک مدینۃ النبی کو لوٹنے کے بعد شامی فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ مکہ میں عبد اللہ بن زبیر اپنی خلافت کا اعلان کر چکے تھے۔ شامیوں نے مکہ کے محاصرہ میں کعبہ کو نقصان پہنچایا۔ ہنوز یہ محاصرہ جاری تھا کہ یہ نیزہ کی موت (نومبر ۶۶۸ء) نے شامیوں کو مکہ کا محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیا۔

**مروان** تین ماہ تک یہ نیزہ کی جانشینی کرنے کے بعد معاویہ بن یہ نیزہ نے عام اجتماع میں ایک تقریب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ یہ نیزہ کی جانشینی سے مستبردار ہوتا ہے اور لوگ جسے چاہیں خلیفہ بنالیں۔ اسی آنامیں مروان بن حکم دمشق پہنچ چکا تھا۔ بنو امیہ کے الابر نے مروان بن حکم کو معاویہ بن یہ نیزہ کا جانشین مان لیا۔

یزید کی موت کے بعد حجاز، عراق اور خراسان نے ابن زبیر کو خلیفہ مان لیا تھا۔ شام میں بھی ابن زبیر کے حامیوں کی کمی نہ تھی لیکن مرج راہ طکی رٹائی نے شام میں ابن زبیر کی حمایت کو ختم کر دیا۔ شام میں اپنے قدم مضبوط کرنے کے بعد مرداں نے مصر پر چمک کیا اور رہنمایت آسانی سے اس پر قبضہ کر لیا۔ مرداں نے ابھی مصر اور شام پر اپنا اقتدار قائم کیا ہی تھا، کہ اچانک مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک اس کا جانشین ہوا۔

## عبدالملک بن مرداں

شام اور مصر پر عبد الملک بن مرداں کا قبضہ تھا۔ حجاز، عراق اور خراسان پر ابن زبیر کا اقتدار تھا۔ عراق میں مختار نے خون حسینؑ کا انتقام لینے کے لیے بہت بڑی فوج جمع کی تھی اس فوج کا تسامم ابن زیاد سے ہوا۔ مختار نے ابن زیاد کا سر کٹوا کر مدینہ میں زین العابدین ابن حسینؑ ابن علیؑ کے پاس بھجوادیا۔ اب مختار نے امام حسینؑ کے قاتلوں کو چن پن کر قتل کر دیا۔ مختار نے اتنی سیاسی قوت حاصل کر لی تھی کہ اب وہ عراق کے ایک حصے کا حکمران بن چکا تھا اس پر ابن زبیر نے اپنے بھائی مصعب کو مختار کے مقابلہ پر بھیجا۔ مصعب نے مختار کو شکست دی۔ مختار کی شکست کے بعد سارا عراق ابن زبیر کے قبضہ میں آگیا۔

خارج کا سرکن بھی عراق میں تھا اور عراق پر ابن زبیر کا قبضہ تھا۔ اس لیے خوارج اور عبد العزیز بن زبیر میں تسامم یقینی تھا۔ کئی ماہ تک کئی مقامات پر خوارج اور ابن زبیر کی فوجوں میں سشدید رٹائیاں ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ ابن زبیر کی موت کے بعد خوارج اور عبد الملک میں رٹائیاں ہوتی رہیں۔ عراق پر قبضہ کرنے کے لیے عبد الملک کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ چنانچہ مصعب بن زبیر اور عبد الملک بن مرداں میں رٹائی ہوتی۔

مصعب بن زبیر کی شکست کے بعد عراق پر عبد الملک کا قبضہ ہو گیا۔ عراقیوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ اب عبد الملک نے جماج بن یوسف کو ابن زبیر کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ جماج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کر کے سنگ بارہی شروع کر دی جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ محاصرین کے دباو سے دس ہزار سپاہی ابن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر جماج سے جا لئے تھے اس پر ابن زبیر نے اپنی والدہ سے کہا "میرے تمام ساختی ایک ایک کر کے مجھ سے الگ ہو چکے ہیں۔ میرے بیٹے تک میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، جو ساختی باقی ہیں ان میں مقابلے کی تاب نہیں، وہ میں رعایت کرنے پر آمادہ ہے ہے بتائیتے یہیں کیا کرو؟" عرب ماں کی طرح والدہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہوئے کہا "اگر تم حق کے لیے لڑ رہے ہے تو اب بھی اس کے لیے لڑائی جا رہی رکھو اور اگر تم دنیا کے لیے لڑتے تھے تو پھر تم سے فرا اور کون ہو گا؟ اگر یہ عذر ہے کہ حق پر ہو لیکن مجبور ہو تو یاد رکھو کہ تم آخر کتب تک دنیا میں رہو گے حق کی راہ میں جان دینا زندہ رہنے سے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔" بہادر ماں کے یہ الفاظ سن کر بہادر بیٹا بہادر کی طرح لڑتا ہوا اس دنیا سے خصوت ہوا۔ جماج نے ابن زبیر کی نعش کو سولی پر لٹکایا۔ اپنے بیٹے کی نعش کو یوں لٹکتا دیکھ کر کہا "شہسوار ابھی سواری سے نہیں اترے"۔

عبداللہ بن زبیر کی مرت کے بعد عبد الملک بن مروان (۴۹۳-۵۰۵) کا کوئی حلف باقی نہ رہا۔ مہلب عبد الملک کی بیعت کرنے کے بعد خوارج سے لڑا رہا ہیاں تک کہ عراق میں خوارج کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ عبد الملک نے جماج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ عراق کے علاوہ سیستان، کرمان، خراسان، کابل اور ترکستان (رکھوڑا سا علاقہ) بھی جماج کے ماتحت تھا۔ سیستان کے حکمران رتبیل کی بغوات کو فرو کرنے کے لیے جماج نے عبد الرحمن بن اشٹ کو بھیجا۔ ابن اشٹ نے سیستان کے جغرافیائی حالات کے پیش نظر وہ میش کا کافی علاقہ فتح کرنے کے بعد ایک سال کے لیے اپنی مهم ملوثی کر دی۔ اس نے اس التواریکی اطلاع جماج بن یوسف کو بھیج دی۔ اس پر جماج نے اسے کمان سے الگ کر دی

ابن اشث کی ساری فوج جماج کے خلاف ہو گئی۔ ابن اشث، اپنی فوج لے کر جماج سے لڑنے کے لیے عراق روانہ ہوا۔ اس نے بصرہ پر قبضہ کر لیا لیکن جماج نے بہت جلد ابن اشث کو شکست دے کر پھر سارے عراق کو اپنے ماتحت کر لیا۔

شامی افریقہ میں بربادیوں نے بغادتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ برباد اور اطلس کے قبائل کا ہنہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے۔ ان بغادتوں کو فرورنے کے لیے اور کاہنہ کو شکست دینے میں عرب حنیلوں نے اپنی فوجی فراست کا ثبوت دیا۔ بربادیوں کے بہت سے قبلیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبد الملک سے پہلے عربوں میں رومی، ایرانی اور مصری سکے چلتے تھے لیکن اس نے اپنا سکر رائج کیا۔ اس وقت یونانی اور ایرانی زبانوں میں دفتری کار و بار ہوتا تھا لیکن عبد الملک نے عربی کو دفتری زبان قرار دے کر عربی کی ترقی اور اشاعت کا راستہ پیدا کیا۔ اس نے خانہ کعبہ کی مرمت کرائی اپنی مملکت کی حدود میں کئی ایک نئے شہر بسائے۔

## سندھ سے پہنچنے والے

ولید بن عبد الملک (۷۰۵ء - ۱۳۷ھ) کا محمد قیمہ بن مسلم، مسلمہ بن عبد الملک، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی فتوحات کے لیے عربوں کی تاریخ کی ایک بہت بڑی یادگار ہے۔

ترکستان کے بعض حصوں پر حربوں کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن بخارا، اسکنڈ اور ان کے نواحی حکمران بغادت پر آمادہ رہتے تھے۔ بغادتوں کے فرورنے اور نئی فتوحات کے لیے خراسان کے والی قیمہ بن مسلم نے ترکستان پر پڑھاتی کی۔ قیمہ نے ترکستان کے

بہت سے شرود کو فتح کیا۔ قتبیہ کی فتوحات کا سلسلہ چین کی مرحدوں تک جا پہنچا۔ خاقان چین نے عربوں کی فتوحات کے ڈر سے قتبیہ سے صلح کر لی۔

ادھر مسلمہ بن عبد اللہ کردستان، آرمینیہ ایشیا تے کوچک کے کئی ایک اہم مقامات کو فتح کر رہا تھا۔ ادھر محمد بن قاسم سندھ کے بڑے بڑے شرود پر قابض ہو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ، اور پنجاب کے ایک حصے پر قبضہ کیا۔ اس مہم کی کمان اگرچہ محمد بن قاسم کے ہاتھ میں تھی، لیکن حجاج بن یوسف کی غیر معمولی سرگرمیاں اس مہم کے سرکرنے کا بہت بڑا ذریعہ نہیں۔ عربوں نے سندھ اور سپین پر تقریباً ایک ہی وقت میں حملہ کیا۔ دونوں ملکوں پر حملہ کرنے والی عرب فوج کے کمانڈر بیس سال سے بھی کم عمر کے نوجوان تھے۔

سپین (ہسپانیہ) پر پہلا غیر ملکی قبضہ قرطاجنیوں کا تھا۔ رومیوں نے قرطاجنیوں کو شکست دے کر ہسپانیہ پر قبضہ کیا۔ گاتھوں نے اُسے رومیوں سے چھینا۔ عربوں نے گاتھوں کو شکست دے کر یورپ کے اس سرسبز اور شاداب جزیرہ نما پر قبضہ کیا۔ عربوں نے ہسپانیہ کو خوشحالی کی اس بلندی تک پہنچا دیا تھا جسے وہ اب تک حاصل نہیں کر سکا۔ انہوں نے ہسپانیہ میں نہ صرف محلوں، مسجدوں، ہسپنیا لوں، مکلوں اور کالجیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا بلکہ کھبڑی بارٹی اور مصنوعات میں ہسپانیہ کو یورپ کا بہترین ملک بنایا۔ جب یورپ کے دوسرے ملکوں میں لمحبے پڑھنے کو جادو گری خیال کیا جاتا تھا تب عربوں کے ہسپانیہ میں اپنے اپنے تعلیم لازمی تھی۔

جب گاتھوں نے ہسپانیہ فتح کیا تو ہسپانیہ پر ایک طرح کی یکلیسا قی حکومت فتح مم ہو گئی۔ اس حکومت نے رومی قانون کو راستہ کیا، لیکن اس قانون میں بے دینوں اور یہودیوں پر سختیوں کو بڑھا دیا گیا۔ یہی کے ہسپانیہ کو جس تعصیب نے تباہ کیا تھا وہی تعصیب گاتھوں کے ہسپانیہ میں موجود تھا۔ آٹھویں صدی کے اوائل میں ہسپانیہ میں

بیو دیوں پر سب سے زیادہ مظالم ڈھانتے جاتے تھے۔ اہل دربار اور ارباب کلیسا کے علاوہ باقی ساری آبادی افلاس اور بحالت میں گھری ہوئی تھی۔ درباری اور کلیسا تی عیش و عشرت کی زندگی لبر کرتے تھے وہ لوگ جو عوام کو گناہوں سے دور رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے سب سے زیادہ گناہ کے قریب تھے۔ کاشت کاروں کی زندگی غلامانہ تھی۔

غلام باپ کی اولاد جاگیر دار کے دارث کی غلام بنا تھی۔ ان غلام کاشت کاروں کی حالت رو میوں کے عہد کے غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ ان غلاموں کی ایک تعداد اپنے مالکوں کے پیغمبروں کے باوجود ایک خاص وقت کا انتظار کرتی چلی آ رہی تھی اآ فرمان دہ وقت آن پہنچا۔

شمالی افریقیہ کے حاکم موسیٰ بن نصیر نے مفتوحہ علاقے میں امن و امان قائم کیا بامنی اور غارت گری کے شکار ہسپانیہ نے عربوں کو دعوت دی۔ ہسپانیہ کے تباہ حال سانوں اور مظلوم بیو دیوں کی استکھیں افریقیہ کے ساحل پر لگی ہوئی تھیں۔ طارق بن زیاد آبناتے عبور کر کے اس مقام پر اتر اجو آج تک اس کے نام پر جبل الطارق کہلاتا ہے گاہتوں نے طارق کی پیش قدیمی کو روکنا چاہا لیکن ڈکڑے ڈکڑے کر دیتے گئے۔ ہسپانیہ کا حکمران روڈریک قرطبه میں فوج جمع کرنے کے بعد عربوں سے لڑنے کے لئے نکلا۔ سیدونیہ (عربوں کا شذر و نہ) میں لڑائی ہوئی۔ گاہتوں نے شکست کھانی روڈریک دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب مرا۔ عربوں نے ایک ایک کر کے ہسپانیہ کے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنامیں اسی سال کا بوڑھا جرنیل موسیٰ بن نصیر بھی مدیران میں اُتر آیا۔ طارق فتوحات کرتا ہوا آگے آگے بڑھ رہا تھا اور موسیٰ بن نصیر اس کے سچھے پیچھے معاہدوں پر دشخط کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ دمشق سے ایک فاسد طارق اور موسیٰ کی واپسی کا حکم لے کر پہنچ گیا۔

**القلاب** | عربوں کی فتوحات نے ہسپانیہ میں ایک مجلسی انقلاب پیدا کر دیا۔

مراعات رکھنے والے طبقہ ختم کر دیئے گئے تباہ حال کسان بر باد شدہ غلاموں اور منظلوں  
یہودیوں نے قدم قدم پر عربوں کا خیر مقدم کیا۔ عربوں نے کسانوں کو ٹکیوں کے باڑ  
سے رہائی دلائی۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی دلائی۔ ہسپانیہ کے سماشہ شہر نتے سرے  
سے بہاتے گئے۔ نتی نتی لستیاں آباد کی گئیں۔ غلاموں اور کسانوں نے اسلام فتح بول  
کر لیا۔ عربوں نے قرطیہ میں علم و حکمت کی ایک ایسی مشع جلاتی ہیں نے یورپ کی تاریکیوں  
کو منور کیا۔ عربوں نے ہسپانیہ سے کچھ نہیں لیا۔ انہوں نے ہسپانیہ کو اپنا سب کچھ دیدا۔  
نو سال اور سات مہینے حکومت کرنے کے بعد ولید بن عبد الملک اس دنیا  
سے چل بیا (ھـ۱) سلیمان بن عبد الملک (۱۵۷-۷۱ھ) اس کا جائزہ شیخ ہے  
ولید بن عبد الملک کے عہد میں عربوں نے تونس میں جہاز سازی کا ایک بہت بڑا  
کاروبار بنایا۔ نتی سڑکیں بنوائی گئیں۔ ان پرنسپ میں نصب کر داتے گئے حجاج  
بن یوسف نے غیر عربوں کی سہولت کے لیے قرآن مجید پر اعراب لگواتے۔ ولید  
اپنے ذوقِ تعمیر کے لیے اُس دُور کی اکیلہ ممتاز ہستی ہے۔ اس نے مسجد نبوی (میں)  
اور جامع دمشق پر دل کھول کر روپیہ تراپ کیا۔

سلیمان بن عبد الملک احسان اور انتقام کا آمیزہ تھا۔ اس نے عراق کے جنگل خانوں  
کے دروازے کھول دیے۔ ہزاروں انسان ہتھیں حجاج بن یوسف نے قید کر کھاتا  
آزاد کر دیے گئے۔ حجاج کے تھاتے ہوئے لوگوں کو رہا کرنے کے بعد سلیمان بن عبد الملک  
نے ہر اس شخص کو تایا یا قتل کر دایا جسے حجاج بن یوسف سے دُور کا بھی تعلق تھا۔ محمد  
قاسم کو سندھ سے بلدا کر دمشق میں قتل کر دادیا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے  
بیچارگی اور درماندگی کے عالم میں مرنے کے لیے چھپوڑ دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک  
عبد میں عربوں نے قسطنطینیہ پر پھر حملہ کیا لیکن انہیں ناکام لوتتا پڑا۔

## حضرت عمر بن عبد العزیز

سیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز

(۷۱۹-۷۱۷) نے سب سے پہلے اموی خاندان کے امراء اور دوسرے عرب برداروں سے وہ جاگیریں چھین کر حواام میں باشٹ دیں جن پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ اپنی اور اپنے خاندان کی جاگیریوں کو ان کے دارالٹوں کے سپرد کرنے کے بعد آپ نے رعایا کے اس مال و اسباب کو واپس کیا جسے صوبائی حاکموں نے غصب کر کھاتھا۔ عراق میں اس کثرت سے مال واپس کیا گیا تھا کہ وہاں کے انتظامی اخراجات کے لیے دمشق سے روپہ بھیجا پڑا۔ آپ نے اس اموی خاندان کے تمام فرمانوں کو بند کر دیے اور بیت المال کی اصلاح کی۔ جب اصطبل کے داروغہ نے گھوڑوں کے لیے اخراجات کا مطالبہ کیا تو آپ نے گھوڑوں کو فروخت کرنے کے بعد ان کی قیمت کو بیت المال میں جمع کر دیئے کا حکم دے دیا۔ آپ نے اپنا سارا آراثتی سامان بیج کر اس کی قیمت کو بیت المال میں جمع کر دیا۔ بیت المال کی آمد فی بڑھانے کے لیے بعض اموی گورنر مسلموں سے جو جزیہ و صول کرتے چلے آ رہے ہیں آپ نے نو مسلموں کو جزیہ سے برہی کر دیا اس پر مصری اتنی آبادی نے اسلام قبول کیا جس سے صوبائی آمد فی بہت کم ہو گئی۔ جب مصر کے گورنر نے اس کمی کی اطلاع آپ کو بھیجی تو آپ نے جواب میں اسے لکھ بھیجا کہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے میں ہادی بن اکرم نے یہ کہتے تھے نہ کہ ملکیں و صول کرنے والے"۔ آپ نے کہی احکام کے ذریعہ رعایا کو غیر ضروری ملکیوں کے لیے جو جس سے نجات دلائی۔ یہودیوں اور یهودیوں کی بہت سی عبادات گاہوں کو ان کے حوالے کیا گیا۔

عدل، الصاف، سادگی اور دیانت میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ جب تک ملکت کا کام کرتے اس وقت تک بیت المال کی

شمع جلاتے اور اس کے بعد اپنا ذاتی کام کرنا ہوتا تو اس شمع کو گل کرنے کے بعد اپنے ذاتی دیار و شن کرتے۔ بیت المال کے مطیع بے اپنے لیے پانی تک گرم نہ کرواتے ایک مرتبہ آپ بیت المال میں آتے ہوئے سیدبوں کو تقسیم کر رہے تھے کہ آپ کا ایک چھوٹا بچہ سبب اٹھا کر کھانے لگا۔ جب آپ کی نظر اس طرف پڑی تو آپ نے اپنے ننھے بیٹے کے منہ سے سبب چھپیں لیا۔ بچہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ننھے نے سارا واقعہ اپنی ماں سے کہہ دیا۔ ماں نے اُسے بازار سے ایک سبب منگوادیا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز گھر آتے تو انہوں نے سبب کی خوشبو پا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیت المال سے یہاں کوئی سبب تو نہیں ہے آیا۔ بیوی نے پچھے کا واقعہ بیان کر دیا اس پر آپ نے کہا ”میں نے پچھے کے منہ سے سبب نہیں چھینا تھا بلکہ اپنے دل سے چھینا تھا کیونکہ مجھے یہ بات پسند نہ ہے کہ میں ایک سبب کے بدلتے اپنے تین اللہ کے حضور میں بر باد کر دیتا۔“

یزید بن عبد الملک (۱۹۷ - ۲۴۳) نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی اصلاحات کو غصہ کرتے ہوئے ان کے مقرر کردہ گورزوں کو معزول کر دیا۔ حدود مملکت میں جا بجا بغداد توں نے سر نکالا۔ ہشام بن عبد الملک (۲۴۳ - ۲۵۷) کے عہد میں عربوں کی سلطنت اپنی وسعت کی آخری حدود تک پہنچ گئی تھی۔

## ہشام بن عبد الملک

ہشام بن عبد الملک کی مرثت کے وقت ایشیا میں عربوں کی سلطنت صحراء تے یمن سے منگولیا کے ریختانوں تک پھیل چکی تھی۔ افریقہ میں خاکناتے سوریہ سے آبنا تے جبل الطارق تک کا علاقہ عربوں کی سلطنت میں شامل تھا۔ یورپ میں جنوبی فرانس

اور ہسپانیہ پر عربوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔

اپنے عہد کے آغاز ہی میں ہشام بن عبد الملک کو بہت سی داخلی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان بغاوتوں کے فرد کیسے جانے کے بعد ہشام بن عبد الملک کی فوجیں نے ترکستان میں فتوحات کا سلسلہ چار می کیا۔ آرمینیہ اور آذربایجان کے باغیوں کو شکست دی۔ مردان بن محمد نے خزر کا بہت سائیا علاقہ فتح کیا۔ ایشیا تے کوچک میں قونیہ اور قیسادہ پر قبضہ کیا گیا۔ جنید بن عبد الرحمن نے راجہ داہر کے بیٹے جسے سنگھ کو شکست دی اور گجرات کا بہت سا علاقہ فتح کیا۔

ہسپانیہ کی فتح کے بعد عربوں میں فرانس کو فتح کرنے کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرب سارے یورپ کو فتح کرنے کے لیے ایک طرف فاسفورس سے اور دوسری طرف آبناتے جبل الطارق سے بڑھنا چاہتے تھے۔ قسطنطینیہ پر اسی خیال سے کمی حملے کیے گئے۔ ہسپانیہ کے بعد فرانس فتح کرنے کی معمولی کوششیں کی گئیں، لیکن اس ضمن میں سب سے اہم کوشش ہشام بن عبد الملک کے عہد میں کی گئی پہتی مینیا کی فتح کے بعد حرب فوجیں اندر ون فرانس کی طرف بڑھیں۔ طور سے کی دیواروں تکے عرب جزیل سمح کی موت کے بعد عرب فوج نے عبد الرحمن غافقی کو اپنا جزیل حرم لیا۔ چند ماہ بعد قیرداں کا مقرر کردہ جزیل غلبہ پہنچ گیا۔ غلبہ نے نہ صرف پہتی مینیا کی فتح کو تکمیل کیا بلکہ برگزندہ کا بھی رُخ کیا۔ غلبہ کی موت کے بعد بچے بعد دیگرے کئی ایک جزیل تقرر کیے گئے یہاں تک کہ عبد الرحمن غافقی کو دوبارہ فرانس کی مہم کا کانٹر بنا یا گیا۔ عبد الرحمن غافقی نے ہسپانیہ کے سارے صوبیں کا دوڑہ کر کے دہل کے نظم و نسق کی خامیوں کو دوڑ کیا۔ اب امیر عبد الرحمن نے فرانس کی طرف توجہ کی۔

۲۳۷ء میں عرب فوجیں بگیو دل اور بدن کی دیواروں میں سے گزر کر فرانس میں ڈھنل ہوئیں۔ آرمینیہ پر قبضہ کرنے کے بعد عرب فوجیں بور دیو کی طرف بڑھیں۔ عربوں

نے اس شہر پر بھی قبضہ کر لیا۔ دارالدین کے کناروں پر عربوں نے فرانگوں کو ایک اڈ سکست دی۔ لائنز اور سینز پر قبضہ کرنے کے بعد عبد الرحمن فرانگ حکومت کی راجدھانی کی طرف بڑھا۔ ڈیوک نے چارلس سے امداد طلب کی اسی اثنامیں عرب فوجیں طور پر قبضہ کر جی تھیں۔ ادھر سے چارلس بہت بڑھی فوج لے کر جنوب کی طرف بڑھا۔ عبد الرحمن کی فوجوں نے لوایہ کو عبور کر لیا۔ چارلس بھی آن پہنچا تھا۔ آٹھویں تک دونوں فوجوں میں معمولی جھپڑ پیں ہوتی رہیں۔ نویں دن چارلس کے ایک دستے نے عربوں کے ان خیموں پر ہلہ بول دیا، جہاں مال خلیمت جمع کیا ہوا تھا۔ بربی سپاہیوں نے ان خیموں کی خلاف کے لیے فوجی ضبط کو توڑ دیا۔ اس ضبط کے ٹوٹتے ہی چارلس نے بڑا ہلہ بول دیا۔ عرب فوجیں بڑی بہادری سے لڑتی رہیں۔ امیر عبد الرحمن اسی لڑائی میں مارے گئے شام تک شدید لڑائی ہوتی رہی۔ رات کی تاریکی نے دونوں فوجوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ اگلی صبح عرب فوجیں میدانِ جنگ سے بہت پیچے ہو چکی تھیں۔

پانچ سال بعد ہسپانیہ کے نئے عرب گورنر عقبہ بن حجاج نے فرانس کے کئی ایک شہروں کو پھر سے فتح کیا۔ چارلس نے فوج جمع کی اور عربوں کو کئی مقامات پر سکست دی۔ ہسپانیہ کے غزوں میں خاندابی جنگوں سے شروع ہو چکے تھے۔ ان جنگوں نے ہسپانیہ کے امن و امان کو بہت حد تک خراب کر دیا تھا۔

ہشام بن عبد الملک کے بعد میں بحیرہ روم کے کئی جزیروں پر عربوں نے قبضہ کرنے کے بعد سسلی کی مہم کو شروع کیا۔ سسلی کی راجدھانی سرقوسہ (سارا لیکوز) پر قبضہ کرنے کے بعد عرب سارے جزیرے کو فتح کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ شمالی افریقیہ میں بربیوں نے بغاوت کر دی۔ چنانچہ سسلی سے عرب فوجوں کو شمالی افریقیہ جانا پڑتا۔ بربیوں کے مسلمان ہو جانے کے باوجود شمالی افریقیہ کا گورنر ان سے جزیرہ وصول کرتا تھا۔ بربیوں نے طنجہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب بربیوں کی فتح کی خبر ہسپانیہ

میں پہنچی تو دہل کے پرپولیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ پرپولیوں کی بغاوت کو فروکرنے کے لیے ہشام بن عبد الملک نے شمالی افریقہ میں ایک تازہ دسم فوج بھیجی۔ اس فوج نے شمالی افریقہ میں پرپولیوں کی قوت کو توڑ دیا۔

مسعودی کے الفاظ میں ہشام بن عبد الملک "منظوم کفایت شعار، بیدار مغرب اور صاحب تدبیر تھا۔ وہ بیت المال میں کسی رقم کو اس وقت تک داخل نہ ہونے دیتا جب تک کہ اس سے یہ یقین نہ ہو جاتا کہ اس رقم کے حاصل کرنے میں کسی رقم کے ناجائز لائع استعمال نہیں کیے گئے۔ اس نے مرکزی دفاتر کی ازسرافِ تنظیم کی۔ عدالتوں میں عرب اور غیر عرب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا۔ اس نے سرحدوں پر چھاؤنیاں قائم کیں۔ بحری بڑیے کی ترقی کے لیے اس نے شمالی افریقہ میں جہازسازی کے کمی کا رخانے قائم کر دیتے۔ سندھ میں منصورہ اور محفوظہ کے نام سے دوستے شہر بناتے گئے۔ ہشام بن عبد الملک کی ایسی بدععت کو پذیرہ میں کرتا تھا جس سے عقاوہ میں رخنہ پیدا ہونے کا احتمال ہو۔ اس کی زندگی پاکیزہ اور سادہ تھی۔ اسے عیش و عشرت سے نفرت تھی۔ موسیقی سے اُسے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جو گانے والی عورتوں اور راگ سے زیادہ پچھی رکھتا تھا۔ ہشام نے حکم دیا کہ اس کا طلبہ جو رہ اس کے سر پر توڑ دیا جاتے اس حکم کی تعمیل کے بعد اس شخص نے رذما شروع کر دیا۔ روٹے کیوں ہو، صبر سے کام لو۔ ہشام نے اس سے کہا "منصورا! میں کسی درد کی وجہ سے نہیں روٹا بلکہ اس قدر ناشناسی پر روٹا ہوں کہ آپ نے بریط کو طلبورہ کہا" اس راگی نے جواب دیا۔

ہشام کی زندگی کے آخری دنوں میں عراق اور خراسان میں عباسیوں کی دخوت بہت موثر ثابت ہو رہی تھی۔ ہشام بن عبد الملک نے امیر نصیر بن سیار کو عباسیوں کی دخوت کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے خراسان بھیجا تھا کہ وہ اس دنیا سے چل بسا۔

# بُرُّ اُمَّیٰہ کا زوال

**اسباب و محرکات** | ہشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد اموی سلطنت

کو زوال آنا شروع ہو گیا۔ مردانہ نافی کے عہد حکومت (۴۵۷-۴۶۷ھ) میں زوال کے اسباب پر قابل پاناممکن ہو گیا۔ مردانہ عیش و عشرت سے نفیر اور سادہ زندگی کا عادی تھا۔ اس میں سپاہیانہ اوصاف بدرجہ آخر موجود تھے اس کی شخصیت نے بعض لوگوں میں یخیال پیدا کر دیا تھا کہ وہ اموی سلطنت کی گرفتاری ہوتی دیوار کو تھامنے میں کامیاب ہو جاتے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو قبائلی عصیت سے بلند کر دیتا تو بزرگی کی تاریخ مختلف ہوتی وہ قبائلی عصیت کو مٹانے کی جگہ خود اس میں ایک فریق بن گیا۔ جس سے امویوں کا زوال یقینی ہو گیا۔ دونوں قبیلوں کے شاعروں نے اپنے لپنے قدیلے کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے نظمیں لکھیں۔

حمص اور فلسطین میں بغاوت ہو گئی۔ خارجیوں نے صحراء سے نخل کر امویوں کی حکومت کے نلاف منظاہر سے شروع کر دیے۔ انہوں نے میں، حجاز اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ مردانہ نے حمص اور فلسطین کی بغاوتوں کو فردر کرنے کے بعد میں، حجاز اور عراق سے خارجیوں کو نکالا۔ خارجی ایران میں چلے گئے۔ اس اثنامیں عربوں کے درجنے قبیلوں کی شانہ بتنگی نے عباسیوں کو امویوں کی سلطنت ختم کرنے کا موقع دے دیا۔ ابوسلم خراسانی نے خراسان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ امویوں کے بیشتر حکمرانوں نے اپنے ایشیائی مقبرضات کی غیر عرب آبادی کو رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ حکمران

خاندان کے افراد یہاں کے عرب آباد کاروں سے بھی اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ان امور کے پیش نظر عراق اور ایران کے عرب اور غیر عرب ابو مسلم خراسانی کے ساتھ شامل ہو گئے خراسان کے عرب حاکم نصیر بن سیار نے ابو مسلم کی طبعتی ہوتی ملاقات کو اشعار میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا مجھے راکھ میں دبی ہوئی چینگاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں۔ ڈر ہے کہ وہ کہیں بھرک نہ ٹھیک، کاش مجھے معلوم ہو جاتے کہ بنو امیہ سور ہے میں یا جا گتے میں اگر وہ اس نازک وقت میں سور ہے میں تو ان سے کہہ دو کہ بیدار ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، مردان نے خراسان میں کوئی لگک نہ بھجی۔ ابو مسلم نے سارے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ نصیر بن سیار خراسان چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا۔

مردان نے امام ابراہیم کو جنوبی فلسطین کے ایک شہر میں سے گرفتار کر لیا تھا اس لیے اب ابو مسلم خراسانی نے امام ابوالعباس بن عبد اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں امام ابراہیم کا جانشین بنایا۔ عباسیوں کے حامیوں نے خراسان کے عربوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ خراسان کے علاوہ ابو مسلم نے عراق عجم پر بھی قبضہ کر لیا۔ عباسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مردان ایک لاکھ بیس ہزار سپاہیوں کی فوج لے کر زاب کے کنارے ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ زاب کے کنارے خدید ترین لڑائی ہوتی۔ اموی فوج کو شکست ہوتی۔ مردان اپنی جان بچاتا ہوا مصر کی طرف بھاگ نکلا۔ مارچ ۷۰۵ء کے عز زاب کی جنگ کے تین مہینے بعد میں عباسیوں نے دمشق کی دیواروں پر اپنا سیاہ جھنڈا ہرا دیا۔ مردان کا پھیپھی کیا گیا۔ وہ مصر میں قتل کر دیا گیا۔ مردان کے قتل کے ساتھ ہی ایشیا میں اموی سلطنت کا چڑاغ گال ہو گیا۔

مردان کے قتل اور اموی حکومت کے اختتام سے عباسیوں کے مذہبات انتقام کی تسلیم نہیں ہوتی تھی اس تسلیم کے لیے انہوں نے اموی خاندان کے ہر اس فرد کو جسے وہ پاسکتے تھے قتل کر دیا۔ امویوں کی ایک جماعت کو کھافے پر ٹبوکر انہیں قتل کر دیا گیا۔

تڑپتی ہوئی نعشوں پر دسترخان بھپو کر عباسیوں نے کھانا کھایا۔ زندوں سے انتقام لیا جا چکا تھا۔ اب مُردوں کی باری تھی۔ اموی حکمرانوں کی قبریں کھد دا کر ان کی مٹی کو ہوا میں اڑادیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک کی نعش کو سولی پر لٹکا کر جلا دیا گیا۔ عباسیوں کے ہاتھ سے عبد الرحمن نامی ایک اموی بیج کو ہسپانیہ پہنچ گیا۔

بنو امیرہ کے عہد میں دمشق دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور بار و نق شہر تھا اموی حکمرانوں نے حسین و جمیل مسجدوں اور عالی شان محلوں سے اس شہر کے حسن میں اضافہ کیا۔ آب رسانی کا نظام حیرت انگیز تھا۔ اس عہد میں اگرچہ پولو کار و اج نہیں ہوا تھا پھر بھی گھوڑ دوڑ کا شوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ مسلم علماء کی مخالفت کے باوجود دمشق کے دربار میں کئی ایک بازنطینی سمجھیں راجح ہو چکی تھیں۔ یونانی اور ہپلو می نہ بانوں کی چند ایک کتابوں کے عربی میں تراجم کرتے گئے خالد بن زید نے طب اور کیمیا پر کئی ایک کتابیں لکھیں۔ مدینہ النبی میں امام جعفر صادق نے درس و تدریس کا بہت بڑا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ کے درس میں دُور دراز علاقوں کے طالب علم شریک ہوتے تھے۔ امام حسن بصری آپ ہی کے شاگردوں میں سے تھے۔

## اموی عہد میں علوم و فنون

اموی عہد میں عراق کے دو شہر کوفہ اور بصرہ علوم و فنون کے نہایت اہم مرکز تھے۔ بصرہ میں سب سے پہلے عربی گرامر لکھی گئی۔ یہ گرامر غیر عرب مسلمانوں کے لیے لکھی گئی تھی، بعد عربی زبان سیکھنا چاہتے تھے۔ اس عہد میں حدیث، فقہ اور دینیات پر بھی چند کتابیں لکھی

گئیں۔ اموی حکمرانوں کی خواہش پر پرانے وقتوں کی عرب قوموں اور عرب بادشاہوں کی تائیخ لکھی گئی۔ اسی عہد میں مذہبی فلسفہ کی اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی جس نے آگے پل کر سعیدہ تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ اس عہد میں فن خطابات نے بہت ترقی کی جس صرفی زیاد اور حجاج کی تقریروں سے اس عہد کی خطابات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ سرکاری مراست نے علم انسٹاکو پیدا کیا۔ اموی عہد میں شاعری اپنے عروج پر لختی۔ اس عہد کا شاعر جاہل شاعر سے ملا جلتا ہے۔ نظریہ شاعری کے ہر طرف چرچے تھے۔ شعرو شاعری کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ الفر ذوق، الاحظل اور جریر کے اشعار میں سیاسی جانب داری دکھاتی دے رہی ہے۔ اسی عہد میں شامی، یونانی اور ایرانی زبانوں سے عربی میں مختلف علوم منتقل ہونے شروع ہو چکے تھے۔ خالد بن میزید نے کہیا، طب اور مہنت کی کتابوں کا یونانی اور قبطی سے عربی میں ترجمہ کیا۔

عربوں کے فن تعمیر کا آغاز میں سے ہوا۔ مینی شہروں کے کھنڈ را ب تک عربوں کے عربوں کے فن تعمیر کا آغاز میں سے ہوا۔ مینی شہروں کے کھنڈ را ب تک عربوں کے اس قدیم فن تعمیر پر وشنی ڈالتے ہیں جنوب غرب کے فن تعمیر کا شامائی عرب پر کوئی اثر نہ پڑا۔ شکستاںوں میں آباد بستیوں کے مکان و حوض میں سکھافی ہوئی اینٹوں سے بناتے جاتے تھے۔ ان مکانوں پر کھجور کے تنوں اور پتوں کی چھپت پڑی ہوتی تھی۔ یہ مکان بہت ہی سادہ ہوتے تھے۔ شام اور ایران کی سرحدوں پر واقع پرانی عرب ریاستوں کا فن تعمیر بازنطینی، شامی اور ایرانی انداز کا تھا۔ اموی عہد میں شام، مصر، چجاز اور عراق میں بڑی بڑی اور خوبصورت مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ اموی عہد ہی میں عربوں کی تاریخ نگاری کا آغاز ہوا۔ اس عہد میں سب سے پہلے جنوبی عرب کے ایک موئخ عابد نے عربوں کے قدیم بادشاہوں اور عربوں کی پرانی قوموں کی ایک تاریخ مرتب کی۔ مسعودی کے زمانہ میں عابد کی یہ تاریخ بہت مقبول تھی۔ اسی عہد میں چند یہودی نوسلم مورخوں نے چند ایک یہودی روایات کو مسلم روایات میں شامل کر لیا تھا۔

اموی عہد میں جبل شقی کی دساطت سے یونانی انگار عربوں تک پہنچے۔ اگرچہ جون یونانی میں لکھتا تھا ایک من وہ سریانی اور عربی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسی عہد میں خطابت نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی تھی۔

خالد بن زینید نے یونانی اور قبطی زبانوں سے کمیا، طلب اور رجوت ش کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ ان حلوم نے عباسی دور میں بہت زیادہ ترقی کی۔

## ساتواں باب

### دُورِ عَجَلَ سَيِّدِهِ

عباسیوں (۳۹-۱۲۵۸) کے بر سر اقتدار آتے ہی شام نے اپنی اہمیت کھو دی حکومت کا مرکز عراق میں منتقل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کا اتحاد ہمیشہ کے لیے غیر ممکن ہو گیا۔ ہسپانیہ نے ابتداء ہی سے عباسیوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ مغربی افریقہ بھی اہمتر اہمتر عباسیوں کے اثر سے نکل گیا۔ عباسی سلطنت کے اس سکڑا و کاسب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عباسیوں نے اپنی مملکت کے تمام ذرائع کو اس کی ترقی پر صرف کر دیا۔ عباسیوں کا دارالخلافہ عالم کا ایک شاندار باب ہے۔ اپنے عهدِ عروج میں بغداد میں دنیا کے چند مرکزوں میں سے ایک ایم مرکز تھا۔ اس خاندان کے پہلے حکمران السفاح کی سختیوں کے سبب شام اور عراق میں حتیٰ ایک شورشیں ہوئیں۔ سفاح نے اپنی موت سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ عباسی خاندان کا پلا حکمران اگرچہ سفاح تھا لیکن اس خاندان کا حقیقی بانی ابو جعفر منصور تھا۔ منصور کے بعد ان شاندار عباسی حکمرانوں کا دُورِ شروع ہوتا ہے جن کے کارناموں کا آج بھی استنبول سے دل تک پڑھا پہنچے جعفر کے تحفظ نشین ہوتے ہی اس کے پچھا عبد اللہ بن علی نے شام میں بغاوت کر دی۔ ابو مسلم نے عبد اللہ بن علی کو شکست دی۔ عبد اللہ بن علی کو شکست دینے کے بعد ابو مسلم خراسان جانا چاہتا تھا۔ جہاں اسے ایک آزاد حکمران کا درجہ حاصل تھا۔

ابو مسلم کا یہ اقتدار منصور کو ناپسند تھا، منصور چاہتا تھا کہ ابو مسلم کے خراسان پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دے۔ منصور نے اسے شام کی ولایت پیش کی لیکن وہ اس پیش کش کو مسترد کرتے ہوئے خراسان کی طرف چل چلا تھا۔ منصور نے اس سے طرح طرح کر دندے کے اُسے اپنے محل میں بلا لیا۔ چند دن تک منصور کی تواضع ہوتی رہی۔ مہان نواز حی کا یہ سلسلہ کتب تک جاری رہ سکتا تھا۔ ایک دن منصور کی موجودگی میں ابو مسلم کو قتل کر دیا گیا۔

منصور نے بغداد کو دارالخلافہ بنایا۔ اس شہر میں تھوڑی مدت میں آنی روشن ہو گئی گویا کسی جادوگر نے اس شہر کو بطن زمین سے نکال کر دجلہ کے کناروں پر کھڑا کر دیا ہو۔

ابو مسلم کے قتل کی خبر باپر خراسان نے بغادت کر دی۔ منصور نے اس بغادت کو فروکر دیا۔ منصور نے ہسپانیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عید الرحمن امری نے منصور کی فوجوں کو شکست دی۔ منصور کی موت پر اس کا بیٹا مہدی تخت نشین ہوا تخت نشین ہوتے ہی اس نے بہت سے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ منصور نے جن لوگوں سے جرمانے والوں کیے تھے۔ مہدی نے انہیں ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے نادری اور سپاہیوں کے لیے پشن مقرر کی۔ قادسیہ سے مکہ جانے والی سڑک کو مہدی نے مکمل کر دیا۔ مہدی کے زمانہ میں مردان دوم نے شام میں بغادت کرنی چاہی لیکن اُسے دبادیا گیا۔

ہاشم بن حاکم (نقاب پوش) نے مہدی ہی کے زمانہ میں یہ دعوے کیا تھا کہ خدا نے صفات مختلف پیغمبروں میں سے گزرتی ہوئی اس میں حلول کر چکی ہیں۔ عربوں کی تاریخ میں ہاشم بن حاکم المقنع یعنی نقاب پوش کہلانا ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھیانک چہرے کو چھپانے کے لیے نقاب اور ھڈیا تھا لیکن اس کے مریدوں نے عوام میں

یہ مشہور کرد کھاتھا کہ اگر المقتع اپنا نقاب الٹ دے تو اس کے رُخ انور کی تحلی دیکھنے والے کو اندرھا کر دے گی۔ المقتع مزد کی اصولوں کا بہت بڑا حامی تھا۔ اس القلاں پسند نے اپنے گرد بہت سے غیر مطہر لوگوں کو جمع کر لیا تھا وہ ایک طویل مدت تک شاہی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا لیکن آخر اسے شکست ہوئی۔ اس کی موت کے بعد عربان میں رُخبوشوں نے مزد کی اصولوں کی بنا پر شورش پیدا کی، لیکن بغداد نے ان پر قابو پالیا۔ ان تحریکوں نے حوسیاسی اور معاشی اسباب سے پیدا ہوئی تھیں خراسان، مغربی ایران اور عراق میں زندیقی تحریک پیدا کر دی۔ زنداقی کے ذہنوں پر مزد کیت مسلط تھی اس لیے مهدی نے نوشیروان کی طرح ان جدید مزد کیوں کو بے دردی کے ساتھ کھچل دیا۔ مهدی نے اس عوامی تحریک کو خلاف قانون قرار دے دیا۔

مهدی کی وفات (۸۵۷ء) کے بعد ہادی اس کا جانشین مقرر ہوا۔ اس نے دو سال تک حکومت کی۔ وہ اپنے بھائی کی صلاحیتوں سے محروم تھا۔ اس نے اپنے منحصر ایام حکومت میں اپنے بیٹے جعفر کو اپنا جانشین بنانے کی بہت کوشش کی اسی سلسلہ میں اس نے ہارون کے مشیر کاریجے بن خالد برملکی کو قید کر دیا۔ ان تمام کوششوں کے باہر ہادی نے مرتبہ وقت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

## ہارون اور ماہون

ہارون الرشید کا شمار دنیا کے بہت بڑے حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس نے بغداد کو دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بنادیا۔ ہارون کے عہد میں ایشیا تی عربیوں کی تہذیب اپنے کمال کے بلند ترین مقام پر رکھی۔ اس بڑے آدمی کی زندگی نے بغداد کی عرب

سوسائٹی کو بہت زیادہ متأثر کیا۔ پر امن و نیز و حکمت کا مریض نظر آتا ہے جنگ و جدل کے ایام میں وہ ایک بکر بند پاہی دکھاتی دیتا ہے۔ وہ سپاہیانہ شجاعت اور فاضلانہ ذکاوت کا ایک حریت انگیز آمیزہ تھا۔ اس کی بنائی ہوئی مسجدوں، مسکنوں، کالجوں، سپتالوں اور نہروں سے اس کے رفاهی کاموں کا انداز لگایا جا سکتا ہے۔ شخصی اقتدار سے پیدا ہونے والے سائل کا ہارون کو بھی سامنا کرنے پڑا لیکن اس کے باوجود ہارون کا عہد حکومت کا میاب تھا۔ ہارون کے عہد کی ترقیوں میں بخ کے نو مسلم خاندان البرکہ (رب بکھ) کا بہت بڑا حصہ ہے۔ سترہ سال تک برکیوں نے ہارون الرشید کی سلطنت کے فروع میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کیں۔ برکیوں نے نظم و نسق میں ہارون سے بھی زیادہ اقتدار اور مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ سلطنت بغداد کے دور دراز کو نوی تک برکیوں کی سخاوت، شجاعت اور ذہانت کی داستانیں پہنچ چکی تھیں۔ سلطنت کے دوران فتاویٰ گوشوں میں جہاں ہارون کا نام تک نہیں پہنچا تھا۔ وہاں برکیوں کی شهرت پہنچ چکی تھی۔ سلطنت کا ہر سائل اور ہر ملازم ان کی نگاہ کرم کا منتظر رہتا۔ سلطنت کے ہر بڑے شہر کے بازاروں میں ان کے چرچے تھے، ہر گاؤں میں ان کے انعام و اکرام کے گیت کا تے جاتے۔ شخصی اقتدار کی خامی نے برکیوں کے احسانات کو بھلا دیا۔ درباریوں کی سازشوں نے ہارون کو یقین دلادیا کہ برکی دوست عباسیہ کے زوال کے خواہاں ہیں۔ شاہی عتاب نے اپنے محسنوں کو مٹانے کا حکم دے دیا۔ جعفر کو قتل کر دیا گیا۔ بوڑھے یحییٰ بن خالد کو فضل، موسیٰ اور محمد سمیت قید کر لیا گیا۔ شاہی عتاب نے کتنی جلدی اپنے محسنوں کو فراموش کر دیا۔

ہارون الرشید کے عہد حکومت میں خارجیوں نے کئی مرتبہ بغاوت کی لیکن ہر بار ان کی بغاوت کو فرود دیا گیا۔ خارجیوں کی ایک بغاوت کی رسمائی لیلے نامی ایک دو شیزو نے کی۔ اپنے بھائی ولید کی موت کے بعد اس نے باغیوں کی کمان سنبھالی۔ اس نے

ہارون کی فوجوں کا کئی بار مقابلہ کیا۔ شاہی فوجوں میں لیلی کا ایک رشته دار تھا جس کے کہنے سننے سے اس نے سبقاً ڈال دیے۔ لیلی اپنی شجاعت اور حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔

ہارون الرشید کی وفات کے بعد (۸۰۹) اس کا بیٹا امین اس کا جانشین ہوا۔ بہت جلد امین اور ماامون میں اختلافات بڑھ گتے۔ دونوں بجا ہیوں میں لڑائی ہوئی جس میں امین کی فوج نے شکست کھائی۔ اب ماامون نے امیر المؤمنین کا القب انتخاب کر لیا۔ سارے ایران نے اسے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ماامون کے سپاہیوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا جس میں بغداد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ بڑی بڑی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ آدھا شہر ایران ہو گیا۔ امین نے اپنے آپ کو ماامون کے سپرد کر دیا۔ لیکن ایرانی سپاہیوں نے اسے قتل کر دیا۔ سارے ہے چار سال تک حکومت کرنے کے بعد امین (۸۱۸) کی عمر میں مارا گیا۔

اگر ماامون فوراً بغداد میں داخل ہو جاتا تو اس کا ابتدائی عہد حکومت بہت سے نازعات سے بچ جاتا۔ ماامون نے امام رضا کو اپنا جانشین نامزد کیا جس سے بغداد کے عباسی الکابر بگڑ گتے۔ بغداد میں بُد امنی کا دورہ شروع ہو گیا جہاں تک کہ ماامون نے بغداد میں داخل ہو کر امن و امان قائم کیا۔ راہ میں طوس کے مقام پر امام رضا کا انتقال ہو گیا۔ ماامون نے امام رضا کا روضہ تعمیر کر دایا۔ جب ماامون بغداد میں داخل ہوا (۸۱۹) تو اس کا بڑی گنجوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔

سات سال بعد ماامون نے اپنے وزیر حسن کی بیٹی بوران سے شادی کی۔ اس موقع پر دونوں طرف سے شان و شوکت کے منظاہرے کیے گئے۔ حسن نے متہ دلن تک براتیوں کی تواضع میں کوتی و قینقہ را لٹھا کر کھا۔ شاہی خاندان کی دو شیزادیں کہ حسن و جمال کو براتی میں موجود شاعروں نے اپنا موضوع سخن بنایا۔ وہن اپنے حسن و جمال میں میکتا تھی۔

بوران کا شمار عباسی محمد کی بڑی خواتین میں ہتا ہے۔ اس نے بعد اد میں عورتوں کے لیے کئی  
ہسپتال بنا لئے۔ ما مون کی موت کے بعد پچاس سال تک نہ رہ کر عجایسوں کے عروج وزوال کو دیکھتی رہی۔  
ما مون کے عہد حکومت کے آغاز میں جب بد امینی کا دور دورہ تھا۔ باہک ختنی نے  
مازندران کی مستحکم قلعہ بندیوں سے اتر کر سلطنت بغداد کے حصوں پر چاپے مارنے شروع  
کر دیے۔ باہک ختنی کی کمی سال تک بغداد کی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب اس  
کے لیے شاہی فوجوں کا مقابلہ کرنا دشوار ہو گیا تو اس نے بازنطینی کے شہنشاہ کو سلطنت  
بغداد پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بازنطینی شہنشاہ اس کے لیے تیار ہو گیا۔ ما مون نے  
بازنطینی فوجوں کو شکست دی۔ بازنطینی حملوں کی زوک تمام کے لیے وہ طروس کے قریب  
ایک لائن بنانے میں مصروف تھا کہ ۸۳۴ء میں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ ما مون نے  
معتصم کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ما مون کا عہد حکومت علوم و فنون کی ترقی کے لیے بہت  
مشہور ہے۔ اس عہد میں بڑے بڑے نامور علماء پیدا ہوتے۔ فلسفہ کے مختلف اسکول  
قائم ہوتے جن میں سب سے اہم اعترزال کا سکول ہے۔ ما مون ہی کے عہد میں فارسی  
شاعری کا آغاز ہوا۔

معتصم (۸۳۴-۸۴۲ء) نے دسط ایشیا کے ترک غلاموں اور پیشہ ور سپاہیوں کی  
ایک فوج مربب کی۔ اس مملوکی فوج نے بہت جلد رومی سلطنت کے پڑی تورین ستوں  
کی طرح شاگردی کے اختیارات حاصل کر لیے وہ جسے چاہتے تھنت پر بٹھا دیتے اور  
جسے چاہتے تھنت سے آتا رہتے۔ تھنت اور تھنڑہ دونوں ان کے اختیار میں تھے۔  
معتصم نے بغداد پر کر سماں اکراپید کو ارتھ بنا لیا جہاں وہ اپنے ڈھانی لاکھ مملوک  
سپاہیوں کے ساتھ رہتا۔ معتصم کے عہد میں دجلہ کے کناروں پر سرہ مزار جائلوں کا  
ایک قبیلہ نوادر ہوا۔ معتصم نے انہیں سلیشیا کی سرحد پر آباد کر دیا۔ جہاں یونانیوں کے  
حملوں نے ان کی تعداد بختم کر دی۔ پچھے کچھے چاٹ تحریک کے علاقوں میں منتشر ہو گئے

اسی اثنائیں باہک خری کی بغاوت دوڑ دوڑ تک کے علاقوں کو متاثر کر چکی تھی۔ معتصم کے جریل افیشن نے باہک خرمی کو گرفتار کر کے اسے بغداد کے بازاروں میں ذلیل و خوار کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ معتصم نے زرعی ترقی کی جانب بہت زیادہ توجہ کی۔ معتصم کی موت کے بعد اس کا بیٹا والیق (۸۴۲ - ۸۴۹) تخت نشین ہوا۔ اس نے آرت اور انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کی۔ والیق بھی اپنے باپ کی طرح عربوں اور ایرانیوں کو فوجی خدمات سے محروم کر کے اپنی فوج میں ترکوں کی تعداد کو بڑھاتا رہا۔ والیق کی موت کے بعد دوسرا تک بغداد کے حکمران بغیر کسی اقتدار کے تخت پر بٹھا دیئے جاتے اور ہر چیزیں افسوس کے قبر تک پہنچا دیئے جاتے۔ والیق کی موت کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔

## عباسیوں کا زوال

متوکل (۸۴۲ - ۸۶۱) نے اپنے کوشاب پینے اور علیش و عشرت میں اس حد تک غرق کر دیا کہ اس کی سلطنت تباہی اور بیادی کے کناروں تک پہنچ گئی۔ اس نے اعتزال کو خلاف قانون قرار دے کر معزیین پہبند زیادہ سخیاں کیں۔ غیر مسلموں کو بھی اس نے کافی رکھ پہنچایا۔ متوکل کے طرز عمل سے تنگ آکر ترکی فوج نے اسے قتل کر دیا۔ مفتر کی اچانک موت کے بعد ترکی سرداروں نے معتصم کے یوتے مستعین کو تخت پر بٹھایا۔ اس کے بعد میں صوبائی حکومتوں پر مرکز کا اقتدار کم ہو گیا۔ بنو عاہر نے نیشاپور (خراسان) میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ بہت جلد دوسرے مشرقی صوبوں نے بھی خراسان کی تقسیم کی۔ مستعین ترکی فوج کے اثر سے رہائی حاصل کرنے کے لیے سمارا سے بغداد بھاگ نکلا۔ ترکوں نے معتز کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اب تک فوج کے سرداروں نے آپ میں اٹنا شروع کر دیا۔ احمد بن طولون مصراہ کا آزاد حکمران بن گیا۔ معتز کے پاس چونکہ تک فوج کو تباہ دینے کے لیے رقم موجود نہیں تھی۔

اس پر ترکی فوج کے چند سپاہیوں نے اُسے محل سے نکال کر بازاروں میں گھینٹنے کے بعد کر دیا جہاں اُسے قتل کر دیا گیا۔ اب مہتمدی کو تخت پر بیٹھایا۔ اس نے دربار کو ترکی اور سے آزاد کرنا چاہا لیکن اس کا حشر بھی اپنے پیش رو جیسا ہوا۔ اب معتمد کی بارہی بھتی ہے ایک کر کے صوبے آزاد ہونے لگے۔ بازنطینی شہنشاہ نے موقع پاک رشام پر قبضہ کر لیا۔ احمد بن طولون نے اسے شکست دے کر رشام کو اس کے قبضہ سے رہا فی دلائی۔ معتز (۹۰۲-۸۹۲) نے عباسی سلطنت کو ازسرنو منظم کرنا چاہا۔ اس نے بازنطین سے کمی علاقے چھین لیے۔ اس نے کردوں کو عراق سے نکال دیا۔ مصر کا دوبارہ الحاق کیا۔ اس بغداد کو چوروں اور بدمعاشوں سے پاک کیا۔

معتز کی انتہائی کوششوں کے باوجود عباسی سلطنت کے صوبوں کے عوام میں زیادہ بے حدیں پیدا ہو رہی تھی۔ نظم و نسق کی خرابی اور ٹکیوں کی زیادتی نے عوام کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ ان بے حدیں عناصر نے کوفہ میں قرامطیہ تحریک کی صورت اختیار کر لی تھی۔ کے چلانے والوں کو انقلاب پسندوں کی آماجگاہ بھریں میں بہت کامیابی ہوتی۔ ابوسعید کی زیر کمان انہوں نے کلدہ اور رشام میں معتز دکی فوجوں کو شکست دی۔ ابوسعید کے قتل بعد اس کا بیٹا ابو طاہر قرامطیوں کا لیڈر بنا۔ پندرہ سال تک قرامطیوں نے معتز دکی فوج کو ہر مقام پر شکست دی۔ یہاں تک کہ مقدر نے اپنی تمام قوت کو یکجا کر کے ان انقلاب پسندوں کی تحریک کو محچل کر رکھ دیا۔

مکتفی (۹۰۲-۹۰۴) نے مصر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور بازنطینی حملوں کی تھام کی۔ اس کی موت کے بعد اس کا بھائی مقدر (۹۰۶-۹۳۲) تخت پر بیٹھا۔ کے عہد حکومت کے ابتدائی دلوں میں نظم و نسق اس کے دزیروں کے قبضہ میں رہا۔ آخری ایام حکومت میں اس کی ماں سلطنت کے کام کا ج پر چھافی رہی۔ قرامطیوں کے چکے جانے کے بعد بغداد میں جنبلیوں کا بہت زور ہو گیا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جنک

ہر اس چیز کو ضائع کر دیتے جو ان کے ذوق کے خلاف ہوتی۔ وہ کتب فردشون کی دکانوں میں داخل ہو کر سائنس اور فلسفے کی کتابوں کو جلا دیتے۔ مقتدر کا جانشین الفاہر بھی دو سال بھی حکومت نہ کرنے پایا تھا کہ ترکی فوج کے سرداروں نے اُسے اندھا کر دیا۔ الراضی (۹۲۰-۹۳۰) کے عہدِ حکومت میں عباسی سلطنت کا تقریباً ہر صوبہ مرکز سے کٹ گیا۔ بغداد کی سلطنت سمٹ کر چند مربع میل تک محدود ہو گئی۔ اس وقت ہسپانیہ کے اموی خاندان کے حکمرانوں نے امیر المؤمنین کا القب اخترانہیں کیا تھا لیکن بغداد کی مرکزیت ختم ہوتے ہی عبدالرحمٰن سوم نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ المستقی (۹۲۰-۹۴۰) کو کتنی بار بغداد سے بھاگنا پڑا۔ متکفی کے عہد میں اس کے وزیر اعظم معزٰ الدولہ نے غان اقتدار کر کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ۹۴۰ء میں معزٰ الدولہ نے خلیفہ کو اندھا کر دیا اور المطیع باللہ (۹۴۰-۹۵۰) کو اس کی جگہ بغداد کے سخت پہنچایا۔ معزٰ الدولہ کی وفات پر اس کے پیٹے معزٰ الدولہ نے وزارت عظیمی سنبھالی۔ معزٰ الدولہ نے ۹۴۷ء میں المطیع کو سخت سے آثارِ کرطاعی باللہ کو سخت پہنچایا۔ مطیع اور طاعی کے عہدِ حکومت وزارت عظیم کی معارف پر درمی کے سبب مسعودی، ابوالنصر فارابی، متنبی، ابو الفرج، دنیا درمی، ابن السلام، عبد الرحمن صوفی اور ابوالفاق اپنے علمی اور ادبی کارناموں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ طاعی کو بہا الدولہ (وزیر اعظم) نے معزول کر کر قادر باللہ کو سخت پہنچایا۔ قادر باللہ نے معزیزیوں کے خلاف کتنی ایک کتابیں لکھیں۔ اس کے عہد میں سامانیوں (۹۶۰-۹۹۹) کا دورِ حکومت ختم ہوا اور اس کی جگہ غزنویوں نے لی۔ جب محمود نے خراسان کو فتح کیا تو خلیفہ کی طرف سے اُسے امینِ الملک کا خطاب دیا گیا۔ قادر باللہ ہی کے عہدِ حکومت (۹۹۱-۱۰۳۱) میں سلجوقیوں نے خراسان میں اقتدار حاصل کیا۔ قادر باللہ کی وفات پر قائم باللہ سخت نشیین ہوا۔ طفل بیگ سلجوقی کی امداد سے وہ بغداد کے سخت پہنچا رہا۔ قائم کی موت (۱۰۴۵) کے بعد مقتدی کے عہد میں خلیلیوں اور حنفیوں میں خوزینہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مقتدی کی موت (۱۰۹۳) کے بعد مستظر کے عہد میں صلبی لڑائیوں کا سلسلہ

شروع ہوا جو کم و بیش دو سال تک جاری رہیں مسترد (۱۱۸۵-۱۱۸۸) کا عہد حکومت سلطان سنجھ کے کارناموں کے باعث مشورہ ہے۔ المکتفی لامر اللہ کے امام حکومت میں امکوں نے جنگی کارناموں کی وجہ سے بہت بڑا نام پایا۔ ۱۲۰۰ء میں مستبد اپنے باپ کی گلہ تخت پر پہنچا۔ دس سال بعد مستقری بغداد کے تخت پر دکھاتی دیتا ہے۔ صلاح الدین الیوبی اسی حکمران کا ہمصر تھا۔ اسی کے عہد حکومت میں سلطان صلاح الدین نبیت المقدس (ریو شلم) پر قبضہ کیا جس سے تیسرا صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ مستقری کی موت کے بعد اس کا بیٹا ناصر (۱۱۸۰-۱۱۸۵) تخت نشین ہوا۔ اس کا طویل عہد حکومت پر امن تھا۔ اس نے بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ اس کے بعد مستنصر (۱۱۹۴-۱۲۰۲) تخت پر پہنچا۔ اس نے اپنی مملکت کو تائاریوں سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو منظم کیا۔ اس کی عمل و دستی کا ثبوت وہ کالج ہے جو اس نے دجلہ کے کناروں پر بنایا تھا۔ مستنصر کے بعد اس کا بیٹا مستعصم (۱۲۰۲-۱۲۵۸) عیش و عشرت کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ خارجی اور داخلی شورشوں نے ہر طرف بد امنی پیدا کر دی۔ جبلیوں اور حنفیوں نے ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیا۔ سنی اور شیعہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ زہر ہے تھے۔ سینیوں اور شیعوں میں ایک شدید فساد ہوا۔ مستعصم نے شیعوں پر سختی کی کیونکہ وہ سینیوں پر سختی کر رکھ کر تھے۔ مستعصم کے اس اقدام نے اس کے شیعہ وزیر ابن علقی کو اس حد تک برہم کر دیا کہ اس نے تائاریوں کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت منگو خان کا جہانی ہلاکو خان ایمان کا گورنر تھا۔ تائاریوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر وہ بغداد کی طرف پڑھا۔ تائاریوں نے بغداد کو تباہ ویرباد کر دیا۔ بیس لاکھ کی آبادی میں سے سولہ لاکھ قتل کر دیے گئے۔ ان مقتولوں میں مستعصم بھی تھا۔ تائاریوں کے ہاتھوں بڑے بڑے شہروں کیلئے میں بدل گئے۔ بڑی بڑی عمارتیں انسیوں اور پیغمبر دل کا دھیرن گئیں۔ عربوں، ایرانیوں اور سلجھر قیویں کے علمی ذخیرے بے باد ہو گئے۔

# حوال باب آں سلجوقی

**طغیل** سلجوقی ترکوں کی آمد سے بغداد کی تاریخ میں ایک نتے باب کا اضافہ ہوا۔ جب سلجوقویوں نے گیارہویں صدی میں اپنا تاریخی مقام حاصل کیا تو اس وقت بغداد کی خلافت اپنا سیاسی اقتدار کھو چکی تھی۔ سلطنت کے ویسے اور عرایض حستوں میں مختلف خاندانوں کی کئی ایک آزاد ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ ہمکران خاندان دوسرے حکمران خاندانوں کو مٹانے کی کوشش میں رہتا تھا۔ ہر طرف سیاسی اور فوجی امداد کی پہلی ہوئی تھی۔ اسی امداد کی میں کرغیز کے میدانوں سے سلجوق اپنے قبیله (ادخوز) کو لے کر بخارا پہنچا۔ جہاں ترکوں کی اس جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ ۱۰۴۰ء میں سلجوق کے پوتے طغیل نے غزنیوں سے مرداونیشا پور چھپیں لیا۔ طغیل نے بہت جلد ملخ، جرجان، طبرستان، خوارزم، ہمدران اور اصفہان پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقی سورج کے سامنے آل بویہ کا چڑائی نہ جل سکا۔ ۱۰۵۵ء میں طغیل اپنے ترکانوں سمیت بغداد کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ بغداد کا گورنر بجاگ نکلا۔ خلیفہ قائم (۱۰۷۵-۱۰۳۵) نے طغیل کو اپنا ناجی سمجھ کر اس کا خیر قدم کیا۔ بغداد کی خلافت اب طغیل کی سرپستی میں آگئی۔ مشرق کے مسلم ممالک پر سلجوقویوں کا اقتدار ۵۵ سال تک رہا۔ سلجوقویوں کے تازہ خون نے مسلم مملکت کو تقدیت بخشی۔ ان ترکانوں کا جو کل تک اسلام کے دشمن تھے مسلمانوں کے لیے سرکبٹ ہو جانا اسلام کی تاریخ کا کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ تیرھویں صدی میں تاتاریوں اور چورھویں صدی ہیں عثمانیوں

نے بھی سلجوقي روایات کو دہرا دیا۔ سلطان طغرل ایک بہادر سپاہی اور نیک انسان تھا اس عالم و دست ترکمان کی سادگی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ سلطان طغرل جن شہر کو فتح کرتا وال اپنی فتح کی یادگار میں ایک مسجد اور ایک کالج قائم کرتا۔

**الپ ارسلان** طغرل کی موت (۱۰۷۳-۱۰۹۳) کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان کے عہد کے شروع میں قسطنطینیہ نے دولاکھ سپاہیوں پر مشتمل ایک فوج بعد اد کو تباہ کر کے لیے بھجی۔ بازنطینی فوج کی یلغار کی اطلاع پا کر عرب فوج نے تیس بھٹکر ملاز جرد ڈیرے ڈال دیئے۔ اسی اثنامیں الپ ارسلان دہان پہنچ گیا۔ الپ ارسلان کے ترکمان نے بازنطینی رومی فوج کو شکست دے کر بازنطینی کے شہنشاہ کو گرفتار کر لیا۔ شہنشاہ الپ ارسلان کے خیر میں پہنچا گیا جہاں اس سے مناسب بنتا وکیا گیا۔ الپ ارسلان اس کامیابی نے ایشیا تے کو چک (اناطولیہ) میں سے بازنطینی اقتدار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ الپ ارسلان کے ایک بھائی نے اناطولیہ میں شاہان روم کا ایک سلسلہ قات کیا اس نئی سلطنت کی راجدھانی اڑیق تھی۔ سلجوقيوں نے اناطولیہ کو ترکیہ بنانے کا عمل شروع کر دیا۔ صلیبی لڑائیوں کے شروع ہونے سے پہلے روم کے سلجوقيوں نے اڑیق کی جگہ قونکوں کو اپنی راجدھانی بنایا۔

**ملک شاہ** طغرل اور الپ ارسلان اپنے ایک فوجی ریزیڈنٹ کی وساطت سے اصفہان کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ ملک شاہ (۱۰۷۴-۱۰۹۲) کے عہد میں سلجوقي ستارہ اپنی انتہائی بلندیوں پر تھا۔ اس کی سلطنت کا شخر سے بیت المقدس (روشیل) تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے مسیحیوں اور مسجدیں بنوائیں۔ ہر بڑے شہر میں ایک تک قائم کیا۔ اس نے اپنی سلطنت میں هزار اور سو روکوں کا جال بچا دیا۔ ترکستان کی

سرحدوں سے شام کے اندر دنی شہروں تک ہر شخص نہیں آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا تھا۔ اس زمانہ میں بعد اد کو صاف سفر کرنے کے لیے جواز امانت کیے گئے، ان کا تعلق سلجوقي سلطان ہی سے تھا۔

الپ ارسلان اور ملک شاہ کے ایام اقتدار میں نظام و نت کی باغ ڈور مشور و معروف ایرانی وزیر نظام الملک کے ہاتھ میں تھی۔ نظام الملک کی تحریک پر ملک شاہ نے ۱۱۰۰ءاع میں نیشاپور کی نئی رصدگاہ میں عمر خایم کی صدارت میں ہبہت کے ماہروں کی ایک کافرنس میں بلا قیمتا کر ایرانی کیلینڈر میں اصلاح کی جاتے۔ اس کافرنس کا نتیجہ جلالی کیلینڈر کی صورت میں بلا قیمتا کر ایرانی کیلینڈر میں اصلاح کی جاتے۔ اس کافرنس کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ نظام ہرہڑا۔ نظام الملک نے آئین حکمرانی پر ٹیکسٹ نامہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ نظام ہرہڑا اور عمر خایم بھی نظام الملک کے ہم عمر تھے۔ نظام الملک نے بغداد میں نظامیہ ناصرخسرو اور عمر خایم کی نیشاپور کے ایک شعبہ کے صدر تھے۔ یحییٰ برملکی کے بعد یونیورسٹی قائم کی۔ علامہ غزالی اسی یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے صدر تھے۔ یحییٰ برملکی کے بعد نظام الملک کا شمار ایشیا کے بہترین وزیروں اور ناظموں میں ہوتا ہے۔ ملک شاہ کی ڈور دراز تک پھیلی ہوئی سلطنت کے مختلف صوبوں کا اس نے بارہ مرتبہ دورہ کیا۔ سو و اگر دوں دریاؤں کی سولت کے لیے اس نے مسافرخانے اور آرام گھر بنوائے۔

ملک شاہ کے عہد حکومت کے آخری دنوں میں مازندران کے کوہستانوں سے جہاں ایک مرتبہ ایک اٹھا تھا۔ ایک نئی تحریک پیدا ہوئی۔ اس تحریک کو جپان نے والاحسن بن صباح کا تعلق اسے عملی فرقد سے تھا۔ اس نے بہت جلد "الموت" کے پہاڑی قلعہ پر قبضہ کر کے فدائیوں کی ایک ایسی جماعت پیدا کی جو اپنے مقصد کے لیے بلا خوف خخبر اور زہر کا استعمال کرتی۔ اس جماعت کا سردار حسن بن صباح تیزنار صلیبی سپاہیوں کا سٹاف (کھلا تھا)۔ ملک شاہ نے اس جماعت پر قابو پانے کے لیے دو مرتبہ فوج بھیجی لیکن محمد آور دو نوں مرتبہ ناکام رہے۔ ۱۱۰۹ء میں حسن بن صباح کے ایک فدائی نے نظام الملک کو قتل کر دیا۔

ملک شاہ کی موت کے ساتھ ہی سلجوقی سلطنت کا آفتاب غروب ہونے لگا۔  
 ملک شاہ کے بعد خلیفہ نے اس کے نابالغ بیٹے محمود کو سلطان کا خطاب دیا۔ لیکن بہت جلد اس کے بڑے بھائی بے یارِ قرق نے اقتدار اعلاء پر قبضہ کر لیا۔ اب ملک شاہ کا تیرا بیٹا محمد بھی میدان میں اتر آیا۔ عراق اور خراسان کے لیے دونوں بھائیوں میں لڑاتی تھی۔  
 محتی، حسن بن صباح کے فدا تیوں کا خبر اور زیر اپنا کام کر رہا تھا۔ شمالی ایران، عراق اور شام کے بہت قلعوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ جاگیرداری نے سلجوقیوں کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ جب تک نظام الملک اور ملک شاہ نمودر رہے۔ ایشیا تک کوچک، شام، عراق اور فلسطین کے جاگیردار ریاضہ تر سلجوقی شہزادے (مطیع اور فرمانبردار رہے لیکن ان دونوں کے اٹھ جانے کے بعد ان جاگیرداروں کی باہمی لڑائیوں نے سلجوقیوں کے اقتدار کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ ایک ویسیع سلطنت کے کھنڈروں پر کئی ایک چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں۔ اس پر بھی خلافت پر سلجوقیوں کا اثر ۱۰۹۹ء تک رہا۔  
 ملک شاہ کی موت کے بعد صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن سلجوق اور خلیفہ نے ان لڑائیوں میں کسی قسم کی دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ یہاں تک کہ ۱۰۹۹ء میں بتیں پر صلیبیوں کے قابض ہو جانے کے بعد شامیوں کے ایک وفد نے بغداد میں پہنچ کر لوگوں کو حالات سے آگاہ کیا۔ لیکن شام کو کسی قسم کی امداد نہ پہنچائی گئی۔ نو سال بعد طرابلس کے محصور شہر نے بغداد سے اپیل کی لیکن بے سود۔ امیر المؤمنین اور اس کا سلجوقی سلطان الگ تھلک بیٹھے رہے۔ مکتفی کے عہد حکومت میں شام کے آتابک خاندان کے بانی زنگی نے بغداد سے چھرا داد مانگی۔ اس مرتبہ بغداد نے چند مہار پاہی بھیجے۔ اسی اثناء میں صلاح الدین ابو بی بورپ کے کمی بادشاہوں کی متحده فوج کو شکست دے رہا تھا۔

# صلیبی حملہ میں

ساتویں صدی میں جب بازنطین اور ایران میں رذاقی ہوئی تھی تو مغربی یورپ کی معاشی، مجلسی اور سیاسی حالت بہت گرمی ہوئی تھی۔ ایک مقام پر اگر کتنی پادری حکمران تھا تو دوسرے مقام پر کوئی نواب قبضہ جاتے بیٹھتا تھا۔ جتنے گاؤں اتنی بادشاہیاں ہیں۔ ہر قصبه راجدھانی تھا۔ عوام کی حالت بہت خراب تھی۔ یہودیوں کو کسی ملک میں بھی پسناہ نہیں ملتی تھی۔ ان کی زندگی مغربی یورپ کے کسی گرشے میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ وہ ہر جگہ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اٹلی، برطانیہ اور فرانس کی طرح ہسپانیہ میں قرطا جنیں اور دیوں کی جنگ عیسیٰ تیوں اور یہودیوں کی باہمی جنگ وجدیں کی صورت اختیار کر جکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عربوں نے شمالی افریقہ پر قبضہ کر لیا تو یہودیوں نے ہسپانیہ کی تسخیر میں ان کی بہت زیادہ امداد کی۔ چھٹی ساتویں اور آٹھویں صدی کا یورپ جاگیرداروں کا یورپ تھا۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طاقتور جاگیردار کے ساتھ وابستہ کرے۔ مارے کے یورپ میں چھوٹی چھوٹی جاگیروں کا جمال بچپا ہوا تھا۔ اسی قسم کی ایک جاگیر موجودہ بلجیم میں فرانکوں نے قائم کی تھی۔ جس نے بڑھتے بڑھتے ایک مملکت کی صورت اختیار کر لی۔ رومی سلطنت کے تباہ و پر باد ہو جانے کے بعد فرانکوں کی یورپیت نالا جا سب سے پہلی تھی۔ اسی ریاست سے موجودہ یورپ کی دو بڑی ریاستیں جنمیں اور فرانش پیدا ہوئیں۔ اس مملکت کے حکمرانوں کے اختیارات بہت جلد امیرالیوان کے مانند میں آگئے۔ آٹھویں صدی کے شروع میں فرانکی مملکت

میں چارلس مارتل امیر الیان تھا۔ اسی چارلس مارتل نے واتر کے کناروں پر عبد الرحمن کو شکست دی تھی۔ چارلس مارتل کے پیپن نے (جو امیر الیان تھا) فرانگی مملکت پر قبضہ جانے کے لیے پوپ سے اس امر کا فتویٰ طلب کیا کہ بادشاہ وہ ہے جس کے اختیار میں سب بچھوڑ ہے یادہ جس کے سر پر صرف تاج ہے۔ پوپ نے (۸۵۷) پیپن کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس نے فرانکوں اور جرمنوں کو متعدد کیا۔ پیپن کے بعد شارل میں نے اس استحاد کو قائم رکھا لیکن اس کے پوتے لوتوی (رم ۸) کے عہد میں فرانک اور جرمون پھر الگ الگ ہو گئے۔ یہ علیحدگی آگے چل کر نوع انسانی کیلئے کتنی گران ثابت ہوئی۔ زبان اور روایات کے اختلاف نے ایک نسل کو دو قوموں میں باشٹ دیا۔

شارل میں | (چارلس اعظم) نے عیسائیت کی اشاعت کے لیے تلوار کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس کی تلوار سے بچنے کے لیے بے دینوں نے برطانیہ پر چل کر کے وہاں کے عیسائیوں کو قتل کیا اور ان کی عبادت گاہوں کو آگ لگا دی گئی۔ شارل میں نے ان کے بھائی بندوں کے ساتھ پوپ میں بوجھپو کیا انہوں نے وہی بچھوڑ ہوئے میں شارل میں کے ہم مذہبوں کے ساتھ کیا۔ قتل قتل براز۔ شارل میں نے پوپ میں روم کے سیزر ویل کی روایات کو زندہ کیا۔ پوپ نے آنے والی صدیوں میں بہت سے سیزر اور کنتی ایک شہنشاہ پیدا کیے۔ پوپ کے تعاون سے شارل میں نویں صدی کے شروع ہوتے ہی "مقدس رومی سلطنت" کا شہنشاہ بن بیٹھا۔ اس طرح وہ رومی سلطنت جو ۴۷۶ ہجری میں بٹ چکی تھی۔ تین سو چوبیں سال بعد پھر سے زندہ ہوئی۔ اس نئی قائم شدہ سلطنت کی جسمانی قوت ایڈس کے شمال میں تھی لیکن اس کا مرکزی تصور روم میں تھا۔ ابتداء ہی سے یہ سلطنت غیر متعدد اور بڑی ہوئی تھی۔ شارل میں اگرچہ دنیا کے کئی ایک حکمرانوں کی طرح لمحہ پر ہونہیں سکتا تھا لیکن اس کی

دستی اور عالم پر ہی کی بہت سی داستانیں مشورہ میں۔ اس نے اپنے دربار کو عالموں  
فاضلوں کا مرکز بنانے کے لیے بہت کوشش کی۔ اس نے تعمیرات کی حوصلہ افزائی  
اے لایپل ( موجودہ اخن ) و رسرا اور کوہوں میں اس نے کمی ایک گرجے بنوائے۔  
دوسری عالمگیر جنگ کے دوران میں مسماں ہو گئے۔ اور اتحادی فوجوں نے اے  
لایپل کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور بھی کئی عمارتیں مسماں کر دیں۔ شارل مین نے  
ل کو لاطینی پڑھنے کی طرف مائل کیا۔ اس نے پرانے جرمن گیتوں اور افسانوں کا ایک  
برہ تیار کیا تھا، جسے اس کے بعد لے لوئی ( ۸۱۸ - ۸۳۰ م ) نے اس کے مدداء معاصر کی بنا  
مائع کر دیا۔ شارل مین نے ہسپانیہ کے عرب حکمرانوں کو فرانس میں پڑھنے سے روکے  
لے۔ یہی وجہ ہے کہ شارل مین اور مارون الرشید میں دوستانہ تعلقات تھے۔  
دن الرشید نے تھاتھ کے طور پر شارل مین کو ایک قدری خیر، ایک آبی کلاں  
ایک ماہی بھیجا تھا۔

شارل مین کی بنائی ہوئی سلطنت اس کے جانشینوں کے عہد میں بہت کمزور ہو  
نی۔ یہاں تک کہ جرمن اور فرانسیسی الگ الگ ہوتے چلے گئے۔ نویں اور دویں  
مدی کے یورپ کی تاریخ بد نظمی اور پیچنی کے واقعات کا ایک تسلیم ہے ۹۶۲  
میں مغربی یورپ پھر ایک شہنشاہ کو پیدا کرتا ہے۔ پوپ نے آٹو ( جرمن کو شہنشاہیت  
آٹاچ پہنایا۔ آٹو دوم ( ۹۷۳ - ۹۸۴ ) اور آٹو سوم ( ۹۸۳ - ۱۰۰۲ ) آٹو اعظم کے  
بالشین ہوتے۔ ازمنہ وسطی کے یورپ میں مقدس رومی سلطنت کے تین خاندانوں  
کی حکمرانی کا سلسلہ ۰۵۰۰ء تک جاری رہا۔ تیس سال بعد روڈولف اول کی تاجپوشی  
سے ہی پس برگ خاندان کی حکومت شروع ہوئی تو ۱۹۱۸ء تک جاری رہی۔

جس زمانہ میں ترکی قبائل بحیرہ اسود کے شمال سے یورپ میں داخل ہوئے ہے  
تھے۔ تقریباً اسی زمانہ میں ترکوں کے چند قبائل جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جنوب

گی راہ سے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ الپ ارسلان نے  
اک بامیں ملائی جو دمیں بازنطینی فوج کو ایک تباہ کن شکست دی۔ اس شکست کے  
میسیحی یورپ کو پریشان کر دیا۔ سلجوچی، قسطنطینیہ کی دیواروں تک جا پہنچے۔ بازنطینی  
شہنشاہ نے یورپ سے امداد کی اپیل کی۔ پوپ کو اس اپیل میں مسیحی دنیا پر اپنا  
اقتدار جانے کی ایک چالک و کھاتی دی۔ پوپ اربن دوم نے پہلی کوئی کوئی کے بعد  
نومبر ۱۰۹۵ء میں کلمہ مون میں دوسرا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی  
کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جو عیسائی صلیبی فوج میں بھرپور ہو گا اور  
کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو عیسائی لڑتا ہو اما راجاتے گا وہ سیدھا بہشت  
میں داخل ہو گا۔ صلیبی فوج کے پہلے جنگیں کو بلغاریہ کے عیسائیوں نے قتل کر دیا۔  
رامبہب پیر طحیلیں ہزار کا درجہ لے کر مغربی ایٹھ یا کی طرف روانہ ہوا۔  
ان صلیبی سور ماڈل نے ہنگری اور بلغاریہ کو دیران کر دیا۔ بازنطینی شہنشاہ نے  
اس ہجوم کو قسطنطینیہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ایشیا میں داخل ہوتے ہی ان  
صلیبیوں نے اتنے مظالم توڑے کر، قدرت بھی کانپ آسھی۔ انہوں نے دو دھیشتے  
بچوں کو کاٹ کر ان کے ٹکڑوں کو ہوا میں چینک دیا۔ وہ از نیق (نیس) تک پہنچ  
گئے۔ سلطان کی فوج نے ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس جنگی کے سردار ریحی نلڈ  
نے اپنے چند ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ تیسرا جنگی موجودہ ہنگری کے  
علاقوں میں داخل ہوتے ہی شرمناک افعال کا مرکب ہوا۔ اہل ہنگری نے ان  
کے ٹکڑے اڑادیلے پھر تھے جنگی میں انگلستان، فرانس، فلینڈرز اور لورائیں  
کے لوگ شرکیت تھے۔ ترک چونکہ بہت دُور تھے۔ اس لیے ان سور ماڈل نے  
راہیں اور موزبل کے کناروں پر آباد بستیوں میں رہنے والے یہودیوں کو قتل کرنا  
شروع کر دیا۔ اس جنگی کو بھی ہنگری کی ایک فوج نے تباہ و بر باد کر دیا۔ اگلے سال

یورپ کے شہزادوں نے ایک صلیبی فوج مرتب کی جس کا سردار گاؤ فری بنتی لوٹی تھا۔ قسطنطینیہ تک پہنچنے کے لیے اس فوج نے راہ میں وہی محچہ کیا جو اس سے پہلے جھٹکے کر جائے تھے۔ مئی ۱۰۹۷ء میں سات لاکھ سپاہیوں کا یہ ہجوم نہیں کے میدان میں تھا۔ سلطان کے لیے نہیں کی حفاظت کرنانا ممکن ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بازنطینی شہنشاہ کی درخواست پر نہیں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح شہنشاہ نے نہیں کو صلیبیوں کی غارت گزی سے بچایا۔ لوٹ مار مچاتے اور قتل عام کرتے ہوتے صلیبی انطاکیہ کی طرف بڑھے۔ انطاکیہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ نو مہینوں کے بعد جب صلیبی فوج انطاکیہ میں داخل ہوئی تو صلیبی تلوار نے نہ پیری کا المحاذ کیا اور نہ حسن و جمال پر ترس کھاما۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں تک کو قتل کر دیا جاتا۔ جب قاتلوں کی انکھوں کے سامنے کوئی مسجد آ جاتی تو ان کی دیوانگی اور وحشت اور تیز ہو جاتی۔ انطاکیہ سے وہ شام کے ایک خوشحال شہر کی طرف بڑھے۔ اس شہر کو کھنڈروں کا ڈھیر بنانے کے بعد صلیبی سپاہیوں نے یروشلم کا رُخ کیا۔ یروشلم (بیت المقدس) پر قبضہ کرنے کے بعد قتل عام شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک علیٰ شاہد کے الفاظ میں مسجد عمر کے باہر گھٹشوں تک گھر اٹھوں کا دریا بنتے لگ گیا۔ یہودیوں کے معبد جلا دیے گئے تھے کا دنی کو یروشلم کا پادشاہ بنادیا گیا۔ فلسطین اور شام کے ایک حصہ پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے اپنی نئی فتح کی ہوئی مملکت کو جاگیروں میں بانٹ دیا۔

صلیبی سپاہیوں کے ہاتھ سے بچ کر نکل جانے والے چند عربوں نے بغداد کی راہی۔ انہوں نے جامع مسجد میں چاکر صلیبیوں کے مظالم پیان کیے، لیکن اس وقت سلجوقی شہزادوں کی خانہ جنگی شام اور فلسطین کے عربوں کی امداد میں حاصل تھی مصر کی فاطمی خلافت کو اپنے چبکڑوں سے آئی فرست ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کام آسکتی آہستہ آہستہ صلیبیوں کی مملکت پر حصی چلی گئی۔ یہاں تک کہ حماوالدین زمگی راتاکب (۲)

صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکا۔ اماکن زنگی نے انہیں کئی مقامات پر شکست دی بعلق پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اس شہر کو صلاح الدین کے باپ نجم الدین کے زیر کمان کر دیا۔ ۱۲۰۳ء میں اماکن زنگی نے عدیسہ پر قبضہ کر لیا۔ اماکن کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ۱۲۰۴ء میں اس کے چند علاموں نے اسے قتل کر دیا۔ اماکن زنگی کی مملکت عراق اور شام کے بعض حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جس کی راجدھانی موصل تھی۔ اس کی مرت کے بعد اس کے ایک بیٹے نور الدین محمود نے جسے حلب کی ریاست ملی تھی، صلیبی لڑائیوں میں بڑا نام پایا۔ نور الدین (لیورپی مورخوں کا نورادی نس) جو نہی خلب کے تخت پر پہنچا، عدیسہ میں بغاوت ہو گئی۔ نور الدین نے عدیسہ پر پڑھی سختی سے حملہ کیا۔ عدیسہ پر مسلمانوں کے دوبارہ قابض ہو جانے سے دوسری صلیبی جنگ (کرویڈ) شروع ہو گئی۔

۱۲۰۴ء میں جرمی کے شہنشاہ کونارڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی یہ فتح نے دوسری صلیبی جنگ کو شروع کیا۔ نولاکھ صلیبیوں کی فوج شام اور فلسطین کی طرف پڑھی۔ سلوجو قیروں نے اس فوج کو شکست دی۔ لوئی نے انطاکیہ کا محاصرہ کر کھاتھا لیکن سیدفت الدین غازی اور نور الدین نے لوئی کی فوج کو شکست دی۔ اس شکست کے بعد کونارڈ اور لوئی یورپ پہنچ گئے۔ دوسری صلیبی جنگ ختم ہوتی ہے۔

اب نور الدین نے صلیبیوں کو شکستیں دینا شروع کیں۔ اس نے انہیں انطاکیہ کے قریب ایک تباہ کرنے کی شکست دی، لیکن ان کی فوجی قوت ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ دمشق پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے نور الدین نے آگے پڑھ کر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ خلافت کی طرف سے اسے الملک العادل کا خطاب ملا۔ ۱۲۰۶ء میں نور الدین نے مصر کی اس مہم کو شروع کیا جس کے نتائج عربوں اور فرنگیوں کے لیے یکساں اہم تھے۔ شیرکوہ نے مصریوں اور فرنگیوں کی متحدہ فوج کو شکست دیکر

اسکندریہ پر قبضہ کر لیا۔ معاہدہ کی وجہ سے شیرکوہ کو والپس جانا پڑا۔ اس کی والپی کے بعد صلیبیوں نے قاہرہ میں ایسی حرکات کیں کہ فاطمی خلیفہ نے نور الدین سے امداد کی اپیل کی۔ جب وہ قاہرہ کے مضافات میں ہی تھا۔ تو صلیبی قاہرہ حچھوڑ کر بھاگ گئے۔ فاطمی خلیفہ نے شیرکوہ کو اپنا وزیر اعظم اور سپہ سالار مقرر کیا۔ شیرکوہ کی موت کے بعد اس کا جستیجا صلاح الدین (صلیبیوں کا سلاطین) وزیر اعظم اور سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ فاطمی خلیفہ کی موت کے بعد صلاح الدین نے مصہ کو ایک مرتبہ بھر عباسی خلافت کے زیر اثر کر دیا۔ وہ نور الدین کی زندگی میں مصر میں اس کی نیابت کرتا رہا۔ لیکن اس کی موت کے بعد وہ مصر کا آزاد حکمران بن گیا۔ بہت تھوڑی مدت میں اس نے فوبیہ، حجاز اور مین پر قبضہ کر لیا۔

نور الدین کی موت کے بعد دمشق میں سازشوں کا جال تجوہ گیا تھا۔ صلیبیوں نے موقعہ پاکر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین سات سو سپاہیوں کے ساتھ دمشق پر قابض ہو گیا۔ اب اس نے نور الدین کے نوجوان بیٹے کو یہ یقین دلانا چاہا کہ وہ صرف دمشق کے بھاؤ کے لیے آیا ہے لیکن درباری سازشوں نے صلاح الدین اور نوجوان اتا بک کو ملاقات کا موقعہ نہ دیا۔ صلیبیوں کو اپنی امداد کے لیے طلب کیا۔ صلاح الدین نے اتا بک کو شکست دی۔ ۱۱۸۴ء میں سلطان صلاح الدین مغربی ایشیا کے تمام مسلم حکمرانوں کا سردار بن گیا۔ فلسطین کے فرنگی حکمران اور صلاح الدین میں ایک معاہدہ ہو گیا۔ یہ دشمن کی معاہدہ شکنی سلطان کی نوجوں کو حرکت میں لے آئی۔ سلطان نے صلیبیوں کو کتنی مقامات پر شکستیں دیں۔ فلسطین کے کتنی شہروں نے اس پر اپنے دروازے کھول دیے۔

اب سلطان نے یہ دشمن کا سُرخ کیا اجماں سائٹھہ ہزار صلیبی سپاہی موجود تھے۔

بیت المقدس فتح کرنے کے بعد سلطان نے شامی اور ریزنا فی یہ سایوں، فرنگیوں اور لاٹینیوں سے نہایت رواداری کا سلوک کیا۔ یہ دشمن پر صلاح الدین کے قابض ہو جانے سے ساری نصرانی دنیا میں ہمچل مج گئی۔ فرانس۔ جرمی اور نہکستان

کے حکمران فلپ آگتس، فریدرک بار بروس اور ریچرڈ اپنی اپنی فوج کے فلسطین کی طرف بڑھے۔ تیسرا صلیبی جنگ میں خوزنیزی کم لیکن شجاعت، مردانگی اور رہاداری زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ صلیبیوں نے عکد کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ صلاح الدین دہال پہنچ گیا۔ نصرانیوں کو سمندر کی راہ سے اور مسلمانوں کو خشکی کی راہ سے لگ پہنچ رہی تھی۔ یورپ کے تین حکمراؤں کی متحده فوج مشرق کے ایک سلطان کو شکست نہ دے سکی۔ صلیبی سپاہی یروشلم پر قابض نہ ہو سکے۔ تیسرا صلیبی جنگ (۱۱۸۹ء) عشق اور بہادری کے افسالوں سے بھری پڑی ہے۔ چوتھی صلیبی جنگ (۱۲۰۴ء) کے سورے عربوں کی جگہ بازنطین پر لوٹ پڑی۔ پوپ کی بھی یہی خواہش تھی۔ قسطنطینیہ پر ۱۲۰۴ء تک لاطینی شہنشاہوں کا قبضہ رہا۔ ۱۲۱۲ء میں فرانس کے لڑکوں کی فوج "مارسیلہ" میں جمع ہوئی تاکہ وہ بھی فلسطین میں پہنچ کر عربوں سے لوٹے۔ ان لڑکوں کو مصر پہنچا کر غلاموں کی طرح فروخت کر دیا گیا۔ بچوں کی یہ صلیبی جنگ برداہ فروشنی میں بدل گئی۔ پانچویں صلیبی جنگ مصر پر قبضہ کرنے کے لیے کی گئی لیکن صلیبیوں کو اس میں ناکامی ہوئی۔ چھٹی صلیبی جنگ (۱۲۲۸ء) کی رہنمائی فریدرک دوم نے اس لیے کی کہ پوپ اس کے خلاف مذپی جنگ جاری کرانے کی دہمکی دے رہا تھا۔ فریدرک نے سلطان سے ملاقات کی۔ اسلام، عیسائیت اور تاتاریوں کی بیفارس کے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ فریدرک عربی میں بلا تکلف بات چیت کر سکتا تھا۔ سلطان نے فریدرک کو یروشلم کی مملکت کا تھوڑا اساحقة دے دیا۔ صلیبیوں نے سلطان مصر کے خلاف ایک سدر شرکی سلطان نے ہم ۱۲۳۰ء میں یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ساتیں صلیبی جنگ کی رہنمائی فرانس کے لوگی ہم نے کی۔ جب وہ مصر میں داخل ہوا تو سلطان کی فوج نے اسے گرفتار کر لیا۔ یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ ۱۲۴۴ء تک رہا۔ اسی سال ایک نئی قسم کی صلیبی جنگ میں یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ صلیبی جنگوں کا طویل سلسہ

نی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ لاطینی کلیسا نے بازنطینی کلیسا کے اقتدار  
بٹانے کے لیے ایک ایسا حرہ استعمال کیا۔ جس نے یورپ کے عوام کو ابتداء میں دیوانہ  
ادیا۔ یورپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام کو ایک تصور ملا۔ اس تصور کے علاوہ مشرق کی  
ولت اور بازنطینی دو شیروں کے حصے نے بھی اپنا کام کیا۔ جب پاپا تے روم نے  
رہوں کے خلاف صلیبی جنگ جاری کرنے پر سارا ذور صرف کیا تو اس وقت یورپی  
وسائی کے بہت سے عناصر اس کے موافق تھے۔ گیارہویں صدی کی آخری دہائی میں  
اور قحط نے لوگوں کو پیشان کر رکھا تھا۔ ان پیشان حال لوگوں نے وبا اور قحط  
کی سک کر رہے تھے تو اسے گردن کٹوانا بہتر تھا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ  
پہلی صلیبی جنگ عوام کی جنگ تھی۔ ان عوام کی جو لیدر کے بغیر تھے۔ جن کی کوئی تنظیم  
میں تھی۔ ابتدائی صلیبیوں کا فہری حشر ہوا جو ایک بے قائد جماعت کا ہو سکتا ہے۔ اسی  
لماں میں نارمنوں نے اٹلی کے مکڑے مکڑے کر رکھے تھے۔ پوپ نے انہیں مشرق کا راستہ  
اکھایا۔ صلیبی جنگوں کے آغاز میں سارا یورپ پوپ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے تھا۔  
لیکن مشرق کی طرف بار بار سفر کرنے اور اپنے سے بہتر تہذیب سے متاثر ہونے کے  
بعد تیرھویں صدی کی آخری چوتھائی کا یورپ پہلے سے کہیں زیادہ مہذب اور قدرتگ  
ہو چکا تھا۔ تاریخی کے پردے میں لپٹا ہوا صلیبی ذہن روشن ہونے لگا۔ بازنطین  
اور بغداد نے یورپ کو متاثر کیا۔ ویس اور جیسو اصلیبی جنگوں کے سبب خوشحال  
ہو گئے۔ آخری صلیبی جنگ کے آخری دن کو سہم نتے یورپ کا پہلا دن کہہ سکتے ہیں۔

## دسوال باب

# عباسی عہد میں علمی سرگرمیاں

### تصویر و تایف

اموی عہد میں یونانی اور سریانی کتابوں کے عربی میں تراجم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن عباسی عہد کی پہلی صدی میں ترجمے کا کام اس تیزی سے جاری کیا گیا کہ اس کے فوراً بعد عرب مصنفوں کا دُور شروع ہو گیا۔ عباسی عہد میں سپانیہ میں بھی عربوں نے علم و فنون میں بہت ترقی کی تھی۔ اسی عہد میں فارسی ادبیات نے کمال حاصل کیا۔ عباسی دور میں عربوں نے سائنس اور ادب کی دنیا کو بڑے بڑے نامور مفکر دیئے۔ ان مفکروں کی کتابوں نے یورپ میں اس نئی علمی سرگرمی کو شروع کیا جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

فلسفہ | عربوں نے اشیا کی حقیقی ماہیت معلوم کرنے کے لیے فلسفہ کا مطالعہ شروع کیا۔ عرب فلسفیوں کا ذہن یونان کے فلسفہ سے بہت متاثر تھا۔ اس زمانہ میں انسانی تاریخ کے پاس علم کی مشعل اٹھانے والوں کے لیے فلسفہ یونان کے سوا اور کوئی ترکہ نہیں تھا۔ عربوں نے اس ترکہ کو بڑھا کر یورپ کو اس کا وارث بنادیا۔ ایک صالح بیٹے کی طرح یورپ نے باپ کے ترکہ میں آنا اضافہ کیا کہ لوگ باپ کو سجدول گئے۔ بڑے باپ کا بیٹا ہونا یا بڑے بیٹے کا باپ ہونہ اپنے آپ کو گناہ کر نہیں ہے وہ

عرب حکیم جو آزادانہ طور سے اشیا کی ماہیت کی تلاش میں نکلے عربوں کی تاریخ میں فلسفی کہلاتے ہیں۔ وہ عرب حکیم جنہوں نے اسلامی عقائد کے ماتحت اشیا کی ماہیت کا مطالعہ کیا۔ وہ مشکلین کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ امام غزالی بہت بڑے مشکل تھے۔ عرب فلسفیوں میں کندھی، فارابی اور ابن سینا بہت مشہور ہیں۔ ان میں کسے پہلا عرب ہے۔ دوسراتک اور تیسرا ایرانی ہے۔ کندھی پہلا عرب ہے جسے ارسطو کا شاگرد کہا جاسکتا ہے۔ اس نے افلاطونی انداز میں افلاطون اور ارسطو کو ملانے کی کوشش کی۔ اس کے نزدیک سائنس کی بنیاد نو فہشا خودی ریاضیاً پر ہے۔ کندھی کی لمحی مہُومیت کی ایک کتابیں عربی میں ترمنقد ہیں، لیکن ان کے لاطینی ترجمہ اب تک موجود ہیں۔ فارابی دسویں صدی کا مشہور فلسفی ہے۔ اس کا فلسفہ افلاطونیت اور ارسطونیت کا (SYNCRETISM) ہے۔ فارابی نے افلاطون کی سیاست سے متاثر ہو کر سیاستۃ المدینہ (الپٹیکل ایکاؤنٹی) لمحی جب میں وہ ایک شہری ریاست کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ فارابی نے فلسفہ کے حلاوه طبیعت، ریاضیات اور موسیقی پر بھی بہت تجوہ لکھا ہے۔ ابن سینا نے یونانی فلسفہ کا خلاصہ عام فہم انداز میں دنیا تے عرب کے سامنے پیش کیا۔

الکندھی اس، الفارابی اس، الیوی سینا! یہ کون لوگ ہیں؟ ناموں سے تو غیر عرب معلوم ہوتے ہیں! بے شک! یورپ نے کندھی، فارابی اور ابن سینا کو یہ نام دے رکھے ہیں۔

مامون نے پونکہ معترضی عقائد اختیار کر لیے تھے۔ اس لیے وہ ان عقائد کو اپنی مملکت میں راستج کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے زمانہ کے علماء کو باغداد میں بلا کر ان کے سامنے اپنے عقائد کا اظہار کیا۔ چند ایک ہلماں نے مامون کے عقائد سے اختلاف کیا۔ امام احمد بن حنبل نے سب سے زیادہ اختلاف

راستے کا انطمہار کیا۔ تاریخ طبری میں مامون کا وہ فرمان درج ہے جس میں اس نے اعتزال سے انحراف کرنے والوں کے لیے سزا کا حکم دیا۔ اس طرح مامون کی وہ تحریک، جو آزاد خیال کے نام سے چلا گئی تھی۔ آزادی خیال کے پھلنے کا ایک خوبہ بن گئی۔ اسلام کی تاریخ میں مامون نے پہلی مرتبہ احتساب کو داخل کیا۔ مامون کے دو جانشینوں کے عہد میں احتساب کی کارفرمائیاں جاری رہیں۔ پہاں تک کہ ۸۴۸ھ میں متوکل نے اعتزال کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نئے احتساب نے معتبرین کو اپنا شانہ بنا�ا اگر اعتزال احتساب کے ہاتھ سے بچ نکلتا تو ایک موئیخ کے الفاظ میں عربوں میں کسی ایک گیلی لو کی پکڑا اور نیوٹن پنڈا ہوتے ہے دسویں صدی کے اختتام پر بصرہ میں ایک الیج جماعت قائم ہوئی جس کے ارکان قاموسی قابلیت رکھتے تھے۔ اس جماعت کا نام اخوان الصفا تھا۔ اس کی ایک شاخ بغداد میں بھی تھی۔ ابوالعلام مغری نے بھی اخوان الصفا کے ایک اجلاس میں شرکت کی تھی۔ ان قاموسیانِ عرب نے رسائل فلسفہ کے علاوہ دوسرے علوم پر بادن رسائل لکھے۔ پہ رسائل ان تمام مروجہ علوم کے خلاصے تھے جن سے اس زمانہ کے پڑھنے لکھنے لوگوں کو واقعہ ہونا ضروری تھا۔ اخوان الصفا کے رسائل نے فلسفہ اور سائنسی علوم کی اشاعت میں بہت حصہ لیا۔

عربوں میں ہمیت کے سائنسی مطالعہ کا آغاز سنکریت کی کتاب سدھانہ (عربی: سندھند) کے عربی ترجمہ سے شروع ہوا۔ اس کتاب کا ترجمہ مامون کے عہد میں ہوا تھا۔ یونانی کتابوں کے عربی ترجمہ نے بھی ہمیت کے مطالعہ میں عربوں کی رہنمائی کی۔ مامون، معتضیم اور داثن کے عہد میں ہمیت کو بہت فروغ ہوا۔ ابوالحسن نے ایک دُریں کے ذریعہ سیاروں کی گردش کا مطالعہ کیا۔ ابراہیم پلا عرب ہمیت دان تھا جس نے اس طریقے تیار کیا۔ اس عہد کا ایک اور نامور ہمیت دان احمد غرفانی (الفراگانس) جس نے ۸۶۱ھ میں متوکل کے لیے فساط میں ایک (معجم نیلومنی)

تیار کر دایا تھا۔ اس کی کتاب علیہ ہبیت کا ۱۳۵۱ء میں لاطینی میں ترجمہ کیا گیا۔ بعد اور کے علاوہ شیراز، نیشاپور اور سمرقند میں بھی ایک صردگاہ تھی جن کے نتائج سے بیسویں صدی کے ہبیت والوں کو بہت کم اختلاف ہے۔ عربوں کا سب سے بڑا ہبیت دان البشانی ہے۔ غزنی میں البيرونی نے سلطان مسعود کے لیے قانون المسعودی فی المیہ و انحصار ملکیتی۔ البيرونی نے بتاتا ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد حکم کاٹتی تھی۔ سمجھوتی سلاطین میں سے ماک شاہ نے ہبیت کے مطالعہ کی حوصلہ افزائی کی۔ نیشاپور میں اس نے ہبیت والوں کی جو کافر لئے بلاستی تھی۔ اس کی صدارت عمر خیام (رباعیات والا) نے کی تھی۔ خوارزمی ہبیت دان ہونے کے علاوہ بہت بڑا ریاضتی دان تھا۔ خوارزمی نے سب سے پہلے حساب اور الجبرا پر کتابیں لکھیں۔ اس کی کتاب حساب الجبرا والمقابلۃ عربی میں صنائع ہو چکی ہے۔ لیکن اسی نام سے اس کا لاطینی ترجمہ اب تک محفوظ ہے۔ دسویں صدی تک یورپ کی تمام یونیورسٹیوں میں خوارزمی کی کتاب کا لاطینی ترجمہ ریاضیات کے نصاب میں شامل تھا۔ اسی کتاب نے یورپ کو الجبرا سے روشناس کرایا۔ خیام کے ہاتھوں الجبرا نے مزید ترقی کی۔

عربوں کا سب سے بڑا کیمیاء الدان (کیمسٹ) جابر بن حیان (یورپ کا گر) ہے۔ بر امکرنے اس کے علم و فضل کی بہت قدر کی۔ جب اس علم دوست خاندان کو زوال آیا تو جابر بھی مصیبتوں کے پھارڈوٹ پڑے۔ اس طوکی طرح جابر بھی دولطیف غاصر کے وجہ دکا قائل تھا۔ اس کے خیال میں یعنصر زمین میں مقید ہو کر کسی قدر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خشک یا دخانی عنصر گندھک وغیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تساں بخاری عنصر پارے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں کے متعلق اس کا یہ نظریہ تھا کہ وہ کبھی تو اور بہبادی عنصر کے امتزاج سے پیدا

ہوتی ہیں۔ بارہویں اور تیرھویں صدی میں جابر ابن حیان کی بہت سی کتابوں کے لاطینی میں ترجمہ کیے گئے۔ ان تراجم میں کمپیکٹ میری کی بنیاد پر عربوں نے طب میں نمایاں کام کیا۔ آنحضرت اور اس کی مختلف بیماریوں کے متعلق عرب طبیبوں نے بہت سے تجربات کیے۔ ”مناقلات فی العین“ اسی زمانکی ایک کتاب ہے۔ بغداد میں طب جاری کرنے سے پہلے ایک امتحان پاس کرنا پڑتا تھا۔ نویں صدی کے آغاز میں مارون الرشید نے بغداد میں ایک ہسپتال (بیمارستان) بنوایا تھا۔ قاہرہ میں پہلا ہسپتال ابن طولون کے عہد میں ۸۷۲ھ میں بنایا تھا۔ یہ ہسپتال پندرہویں صدی تک جاری رہا۔ ان کے علاوہ ہر بڑے شہر میں ایک ہسپتال ہوتا تھا۔ بعض ہسپتالوں میں طبی کتاب خانے بھی ہوتے تھے۔ کتنی ایک میں طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ رازی اور ابن سینا عربوں کے نامور طبیب ہیں۔ پرس نیونیورسٹی کے مدرسہ طب کے مال میں رازی اور ابن سینا کی تصویریں لٹک رہی ہیں۔ تیسرا نامور طبیب علی ابن طبری ہے جس نے ۸۵۰ھ میں فردوس الحکمة، الحجی۔ علی ابن طبری کے بعد رازی ابن سینا نے طب پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ کتاب المنصوری اور الحادی رازی کی مشہور کتابیں ہیں۔ رازی کے بعد ابن سینا کا مرتبہ ہے۔ طب میں رازی، ابن سینا سے آگے ہے لیکن فلاسفہ میں رازی ابن سینا سے پچھے ہے۔ ابن سینا بخمار کا رہنے والا تھا۔ اس کی شہر آفاق کتاب ”قانون“ صدیوں تک یورپ کے طبی مدرسوں میں پڑھائی گئی۔ آج بھی اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے علاوہ کتنی ایک ہبودی اور عیسائی عربوں نے بھی طب میں نام پیدا کیا جیسا نیا میں جاخط اور دمیری اور قزوینی نے کافی کام کیا۔ جاخط کی کتاب الحیوان میں مسکر ارتقا کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ساتویں اور نویں صدی میں عرب تاجرشنگی اور ترمی کی راہ میں سے ایک طرف

چین تک اور دوسری طرف او قیانوس کے کناروں تک پہنچ گئے تھے۔ عرب کے تجارتی جہازوں کے ملاج جنوبی افریقہ کے ساحلوں سے اچھی طرح واقع تھے تا جوں اور ملاحوں کی وجہاں اپنے طعن پہنچ کر جب ان ملکوں کے حالات بتاتی ہوں گی۔ تو اس سے دور دراز کے ملکوں اور اجنبی قوموں سے لوگوں کی لمحچی پڑھتی ہوں گی ایک نامعلوم مصنف نے ۸۵۰ء میں سلیمانی تاجر کی سیاحت چین کی کتاب لکھی تھی۔ اسی قسم کی دوسری کتابوں نے سندھار کے افسانوں کی روایات کو پیدا کیا۔ پولی کی جیگرانی، کامنی صدی میں عربی میں تجربہ کیا گیا خوارزمی کی صورت الارض نے جغرافیائی معلومات کے لیے ایک نیا جوش پیدا کر دیا۔ دسویں صدی میں اصطخری، ابن حوقل اور مقدسی ایسے جغرافیہ دان پیدا ہوتے اصطخری اپنی کتاب مملکت الملک میں ہر ملک کا الگ الگ نقشہ درج کرتا ہے۔ ابن حوقل نے اس کتاب کو دوبارہ لکھ کر مملکت الملک کے نام سے شائع کیا۔ بیس سال تک مختلف ملکوں کی سیاحت کرنے کے بعد مقدسی نے ۹۸۵ء میں معرفت الاقليم، لکھی۔ ہمدانی اور مسعودی بھی اسی عہد کے نامور جغرافیہ دالوں میں سے ہیں۔ آخوان الصفا کی طرف سے بھی جغرافیہ پر چند رسائل لکھے گئے تھے ان میں ایک رسالہ میں کائناتی چکر پر بحث کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کس طرح زرعی اراضی صحراءوں میں، صحرائگلزاروں میں، سمندر میڈالوں میں اور میدان سمندوں میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ عباسی عہد کے آخری ایام میں عربوں کا سب سے بڑا جغرافیہ دان، اور مصنف مجمع البلدان، یاقوت ر (۱۱۷۹-۱۲۲۹) ظاہر ہوتا ہے جب تا ماریوں نے خوارزم پر جملہ لکھا تو اسے خوارزم چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ "مجمع البلدان" ایک جغرافیائی قاموس ہے جسے حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب جغرافیہ، تاریخ، فلسفیات اور طبعی علوم سے متعلقہ معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔

عربوں میں تاریخ نگاری کا آغاز اموی دور ہی میں ہو چکا تھا۔ عباسی عہد میں عربوں نے بڑے طور پر تاریخ نگار پیدا کیے۔ بلاذری نے فتوح البدان میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے عربوں کی فتوحات کی مکمل تاریخ لکھی۔ ابن سلم دیناوری اور ابن داؤد دیناوری نے کتاب المعارف اور الابغار، لکھیں۔ یعقوبی اپنی تاریخ عالم کو ۸۷۲ء پر ختم کرتا ہے۔ ایک صدی بعد مسکویہ نے تاریخ عالم کو اپنے زمانہ تک لکھا۔ مسکویہ، ابن اثیر اور ابوالغدا کا سب سے بڑا مخذ طبری کی کتاب الملوك ہے طبری (۸۳۸ء)۔ ۹۷۳ء نے اس کتاب پر چالیس سال صرف کیے تھے۔ مسعودی نے مروج الذہب کے نام سے تیس جلدیں میں دیناکی تاریخ لکھی۔ اپنی موت (۹۵۶ء) سے تھوڑی مدت پہلے مسعودی نے اپنے فلسفہ تاریخ کو مدون کیا۔ ابن اثیر نے طبری کی کتاب الملوك کا حلہ مرتب کرنے کے بعد اس میں صلیبی جنگوں کے حالات کا اضافہ کیا۔ ابن خلکان نے ایک سوانحی قاموں مرتب کیا۔

عرب علمائے دینیات، حدیث، علم الفاظن اور لسانیات میں بھی نمایاں کام کیا۔ حدیث کی مستند کتابیں عباسی دور ہی میں مرتب ہوتیں۔ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ کی تدوین اسی دور سے متعلق ہے۔ ایک پرانی ایرانی کتاب مہزار افسانہ نے دسویں صدی میں الہ لیلہ کی بنیاد رکھی۔ شاید ہی کسی زبان کے ادب کا دامن اس کتاب سے خالی رہا ہو۔ قدیم عرب شاعری کی جگہ نئی شاعری نے لی۔ اس نئی شاعری کا سب سے بڑا علم بردار ہارون اور ایمین کا دوست ابو نواس تھا۔ ابو نواس اپنے عہد کا سب سے بڑا غنائمی اور باخوسی شاعر تھا۔ عباسی عہد میں شام نے خوبی سے نامور شاعر پیدا کیے۔ ان میں ابو العلا اور ابو تمام بہت مشہور ہیں۔ اس دور کے فارسی شاعروں میں دیقیقی، فردوسی، عنصری، انوری، عطاء، رومنی اور سنتا قی زیادہ مشہور ہیں۔

# کیارھوال باب

## بحدادی سپاہی

مغربی ایشیا کی مسلم ریاستوں نے اپنے آپ کو چلیبوں سے بمشکل تمام بچایا ہی تھا کہ انہیں مشرق سے آئھتے ہوتے ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی اور وسطیٰ ایشیا کی آزاد ریاستوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی تamarیوں کو شکست دے سکتی۔ ان ریاستوں کو متعدد کرنے والی شخصیت بھی موجود نہیں تھی چنانچہ خاتمی مغرب کی طرف بڑھے۔ چند سال کے اندر انہوں نے مغربی ایشیا کی شاداب وادیوں کو دیرنوں میں بدل دیا۔ ۱۷۱۸ء میں تamarیوں کے سردار چنگیز خان نے دس لاکھ فوج لے کر خوارزم شاہی مملکت پر پہ بدل دیا۔ خوارزم شاہ کی فوج تamarیوں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ تamarیوں نے فرغان، خوجند، بخارا، سمرقند، مہرات، روسے اور کمی ایک دوسرے شہر تباہ و برباد کر دیتے۔ خوارزم شاہ نے پھر خزر کے ایک جزیرے میں پناہ لی۔

خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین نے تamarیوں کا مقابلہ کرنا چاہا۔ چنگیز نے جلال الدین کا پسچا کیا۔ بامیان، کابل اور غزنی سے ہوتا ہو اجلال الدین دریافتے سندھ کے مغربی کنارے پر پہنچا ہی تھا کہ چنگیز بھی آن دھمکا۔ لڑائی سچھڑگئی جلال الدین نے بہادری کے جوہر دکھاتے۔ اس کے نیچے دو گھوڑے نے مر جکے تھے۔ تیسرا گھوڑا اس کے نیچے تھا۔ تیس فٹ اونچے ساحل سے دو گھوڑے سے سینت سندھ میں کوڈڑا۔ چنگیز اور اس کے ساتھی اس بہادر ترکان کی بہادری پر دنگ رہ گئے۔ اسی اثناء

میں بلین کی فوج سندھ کے مشرقی کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ چنگیز کو سندھ عبور کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ تاتاریوں نے چھر مغرب کا رُخ کر لیا۔

وسطیٰ ایشیا اور ایران میں تمذیب و تمدن کے مرکزوں کو ملیا میٹ کرنے کے بعد چنگیز اپنے صحرائی مسکن کی طرف لوٹا اور مر گیا۔ جلال الدین نے اپنے باب کی مملکت کا تھوڑا سا حصہ تاتاریوں سے والپس لے لیا۔ جلال الدین فوج اُنھی کر رہا تھا کہ تاتاریوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کردستان کے پہاڑوں میں پناہ لے۔

جب وسطیٰ ایشیا (ترکستان) اور ایران تاتاریوں کے ہاتھوں لوں مٹ رہے تھے تو اس وقت دربار بغداد اوسازشوں کا شکار ہوا تھا۔ معتصم کے وزیر ابن علمی نے ایران کے تاتاری حاکم ہلاکو خاں کو بغداد پر قبضہ کرنے کی دعوت دی اور ہلاکو خاں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ علمی ذخائر غرق یا نذر آتش کر دیے گئے۔ عباسی عہد میں بغداد دنیا کا سب سے زیادہ بار و نق شهر تھا۔ ویسیع بازاروں، چوری گلیوں، دلکشا باغوں، خوب صورت مسجدوں، آباد مکتبوں، شاندار کالجوں، رفاهی ہسپتالوں، عمومی پارکوں اور اشرافی عمارتوں میں بغداد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بارہ میل کے قطر میں پھیلے ہوئے تھے بغداد کے وسط میں بہتا ہوا دجلہ اس چاند کو دھنکڑوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جس طرح لاہور کا دل انارکلی ہے اسی طرح بغداد کا دل مامونیہ تھا۔ صفائی اور روشنی کے انتظامات کی دیکھ بھال کے لیے ایک مجلس مقرر تھی۔ بغداد کی دولت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حکمرانی کے علاوہ کہتے سے دوسرے لوگوں کے محل حسن و جمال میں شاہی محلات سے کم نہیں تھے۔ ان محلات کی زیباتش ایرانی انداز میں کی جاتی تھی۔ ابو زواس اپنے اشعار میں بار و نق عمد کی شان و شوکت کا مرقع پیش کرتا ہے۔ آغا فی کے صفات بھی بغداد کی

عشرت پنڈیوں کو اپنے اندر چھپاتے ہوتے ہیں۔ بعد ادکی تجارتی سرگرمیوں کا اندازہ ان عباسی سکوں سے لگایا جاسکتا ہے جو روس، فن لینڈ، سویڈن اور جرمنی سے دستیاب ہو چکے ہیں۔

## بازھوال باب

### عرب کا مہسانیہ

اس باب کو لین پول کے ان الفاظ سے شروع کیا جاتا ہے۔ "لقریباً آنہ سو برس تک، ہسلم حکمراؤں کے ماتحت ہسپانیہ نے یورپ کے سامنے ایک مہذب اور روش خیال ریاست پیش کی۔ اس کے ذریعہ صوبوں کی ذریعہ کو حکمراؤں کی صنعتی اور مہندسی صلاحیتوں نے سوگنا بڑھادیا۔ ہسپانیہ کی شاداب و ادبیوں میں ان گنت شہر کھڑے ہو گئے۔ آج بھی ان شہروں کے نام ان کی عظمت رفتہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یورپ میں صرف ہسپانیہ ہی وہ مقام تھا، جہاں آرت، لٹریچر اور سائنس کو ترقی فصیب ہوتی۔ فرانس، جرمنی، انگلستان کے طلباء اپنی علمی پاییں بجا نے کے لیے عربوں کے ان حضشوں کی طرف جبکہ درجوق رجوع کرتے۔ انہیں کے جراح اور طبیب سائنسی ترقی میں پیش پیش تھے۔ عورتوں کے لیے علوم و فنون کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ قد طبیب کے رہنے والوں کے لیے لیڈی ڈاکٹر کوئی تنی بات نہیں تھی۔ ریاضیات، ہنریت، نباتیات، تاریخ، فلسفہ اور قانون کا مطالعہ ہسپانیہ اور صرف ہسپانیہ ہی میں ہو سکتا تھا۔ ذرعی تجزیوں، آبپاشی کے سائنسی طریقوں، تکمیلیوں کے فنون، جہاز سازی، پارچہ بافی، آہن گھی اور نتروفت سازی کو ہسپانیہ ہی کے عربوں نے پاٹہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میدان جنگ اور ایام امن دونوں میں وہ صدیوں

سب سے بلند تھے۔ ان کے پڑے نے بحیرہ روم میں فاطمی بڑے سے لگری۔ ان کی تلوار نصرانی بورپ کو کاٹتی چلی گئی۔ ہسپانیہ کا قومی ہیر و بید عربوں کی حمایت میں لڑتا رہا۔ وہ تعلیم کے علاوہ دوسری باتوں میں آدھا عرب تھا۔ ہر وہ چیز جس سے مملکت کو عظیمت اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، ہر وہ تہذیب اور شانتیگی پیدا کرتی ہے عربوں کے ہسپانیہ میں موجود تھی۔

پانچویں صدی میں گاتھوں کی غربی (وسی) شاخ نے ہسپانیہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس زمانے میں ہسپانیہ رومنی سرداروں میں بنا ہوا تھا۔ ہسپانیہ کا امیر طبقہ علیش و عشرت میں غرق تھا۔ غریب طبقے کے لوگ محنت و مشقت کے بو جھوٹلے دبے ہوئے تھے۔ اس طبقے کے بیشتر لوگ غلام ہوتے یا غلاموں کی سی زندگی بس کرتے۔ محدود درمیانہ طبقہ بھی خوش حال نہیں تھا۔ وسی گاتھوں ایسے ٹولے لوگوں کے لیے اس قسم کے لوگوں پر فتح پالینا بہت آسان تھا۔ گاتھوں کے دوسری حکومت میں ہسپانیہ کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ غلام کسانوں کی حالت پلے سے بھی خراب ہو گئی۔ پادریوں نے بہت سی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ہیاں بھی ان پادریوں کے ہم مذہب کسانوں، غلاموں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ، سردار اور پادری مل کر ہسپانیہ کے عوام کو بڑی طرح سے دُٹ رہے تھے۔ غلام کسانوں اور درمیانے طبقے کے لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ وقت پڑنے پر ہسپانیہ کی خناکیت کر سکیں گے بہت بڑی حماقت تھی۔ ہسپانیہ کی عوامی قوت اپنے آقاویں کے لیے اپنی انگلی تک اٹھانے کو تیار نہیں تھی۔

**طارق بن زید** | ان حالات میں ہسپانیہ آمازہ دم اور القلاط کے علم بردار عربوں کا کیونکر مقابلہ کر سکتا تھا؟ ایک ابتدائی مہم کے دو سال بعد شمالی افریقیہ کے گودرز موسیٰ بن نعییر نے ۱۲۰ میں طارق ابن زیاد کو سات ہزار سپاہیوں کی کمان

میں ہسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے مبینا۔ جبل الطارق اسی ہم کی بادگار ہے۔ ہسپانیہ کا بادشاہ غلام کسانوں اور بندل سرداروں کا ایک انبوہ لیے طارق سے لڑنے کے لیے نکلا۔ اسی اثنامیں افریقہ سے پانچ ہزار برب طارق کی لگ کے لیے پہنچ گئے غلام کسانوں کی وفاداری مشتبہ تھی۔ سردار بندل اور بد اخلاق تھے۔ بادشاہ غیر مقبول تھا۔ پہلی راتی میں روڈریک ہار گیا۔ ہسپانیہ پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ آٹھ سو سال تک عربوں نے ہسپانیہ پر حکومت کی۔

ایک ہی دار میں ہسپانیہ عربوں کے قدموں میں تھا۔ اس رطابی کے بعد ہسپانیہ کے چند شہروں نے عربوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ قطبہ، ارشید و نہ، ملاعنة الوریا، اور تولید و (طلیطلہ) ہیک ایک کر کے عربوں کے قبضے میں آگئے۔ دمشق کے اموی خلیفوں کی سلطنت سندھ سے سپین تک پھیل گئی۔ نوجوان طارق کی فتوحات نے بوڑھے موسیٰ میں جوش پیدا کر دیا۔ آبنائے پار کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر ہسپانیہ میں داخل ہو گیا۔ کار مونا، سیلو اُتل اور مریدا کو مسخر کرنے کے بعد موسیٰ نے طلیطلہ میں طارق سے ملاقات کی طارق چونکہ موسیٰ ای اجازت کے بغیر آگے بڑھ چکا تھا۔ اس لیے گورنر نے جرنیل کو قید کر لیا۔ لیکن خلیفہ ولید نے طارق کو ہسپانیہ کی کمان پر مامور کر دیا۔ موسیٰ بن نصیر کو دمشق بلا لیا گیا۔ اس کا انجام اچھا نہ ہوا۔ خلیفہ کے احکام ملنے سے پہلے بوڑھا جرنیل پاپی رہی نیز کی بلندیوں سے سارے یورپ پر عقابی نگاہ دوڑا چکا تھا۔

۱۹ کے میں عرب جنوبی فرانس میں تھے۔ تیرہ بیس بعد عبد الرحمن طورس کی جانب بڑھا۔ فرانس کے میر و نجی بادشاہ سپین کا حاجب چارلس، عرب جرنیل کو روشنی کے لیے میدان میں نکل آیا۔ چارلس کے سپاہیوں اور روڈریک کے غلام کسانوں کی فوج میں بڑا فرق تھا۔ چارلس کے فرانک عبد الرحمن کے عربوں سے کم بہادر تھیں تھے۔ چارلس نے عربوں کو روک کر نارتل، کانام پایا۔ فرانک، عربی تلوار کی کاٹ اور عرب،

فرانکوں کی بہادری دیکھ چکے تھے۔ عرب ہسپانیہ میں چلے آتے اور فرانک اپنے گھر میں آزاد تھے۔ پاپی رمی نیز پار کرنے سے دو فوٹ گریز کرتے رہے۔ زاب کی لڑائی دمشق کی اموی خلافت کو ختم کر چکی تھی۔ ہسپانیہ کا گورنر یوسف خلافت کی تبدیلی سے فائدہ اٹھا کر بہت حد تک آزاد ہو چکا تھا۔ عباسی خلافت سے اس کا برآتے نام تعلق تھا۔ زاب کی لڑائی کے بعد ایک اموی شہزادہ عبدالرحمٰن ہرمی مشکل سے جان بچا کر شمالی افریقۃ کے برب قابل تک پہنچ گیا۔ شمالی افریقۃ کے ساحل پر سے عبدالرحمٰن نے اموی سلطنت کے اس صوبے پر نظر دوڑا تی جو آبنا تے کی دوسری طرف تھا۔ اس نے اپنے دوستوں، عزیزوں اور حامیوں کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے اسے ہسپانیہ بلا لیا۔ ہسپانیہ کے بہت سے عرب سردار عبدالرحمٰن کے حامی بن گئے۔ یوسف کو لڑائی میں شکست کھانی ٹھی (۷۵۷ء) عبدالرحمٰن قرطبة میں داخل تو ہو گیا لیکن اُسے بہت سے عرب اور برب سرداروں کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ فوجی سردار ہسپانیہ کو اپس ہی میں بیار ہئے دینا چاہتے تھے۔ عبدالرحمٰن اور ان سرداروں کی لڑائی جاگیرداری اور شاہیت میں کش مکش تھی۔ ہسپانیہ کے بعض عرب جاگیردار پاپی رمی نیز پار کر کے شارل میں سے مدد مانگنے لگے۔ شامل میں کی اپنی سلطنت کے چیلاؤ کے لیے جاگیرداروں کا ہسپانیہ، قرطبة کی مرکزیت کے تابع ہسپانیہ سے کہیں زیادہ منفید تھا۔ ۷۷۷ء میں شارل میں نے سرغونہ کا محاصرہ کر لیا۔ اسی اثنامیں سکسنوں کی بغاوت نے اُسے لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ والپی پرولس دیلے میں شامل میں کی فوج کو تباہ و بر باد کر دیا گیا۔ صدیوں بعد جب انگریزوں نے ہسپانیہ میں نپولین کے کے سپاہیوں کا اسی درے میں تعاقب کیا تو اس وقت بھی وہاں کے دیہاتیوں کی زبان پر شامل میں کی فوج کی تباہی کے گیت تھے۔

عبدالرحمٰن کو اپنی بادشاہیت ستحکم کرنے کے لیے اگرچہ بہت سختیاں کرنا پڑی

تھیں۔ لیکن وہ طبعاً نرم دل اور علوم و فنون کا سرپرست تھا۔ اس نے فاطمہ کو کئی ایک خوب صورتِ عمارتوں سے آرائشہ کیا۔ اندرس (عربوں کا ہسپانیہ) کے بہت سے حکمرانوں کی طرح عبد الرحمن شعر بھی کھتانا تھا۔ عبد الرحمن اپنے باپ دادا کی سر زمین سے بچوں کا ایک درخت اندرس میں لگانے کے بعد اس سے لوں مخاطب ہوتا ہے۔ ”میری طرح تو بھی دوستوں اور عزیزوں سے جُد اہو چکا ہے۔ اپنے طلن سے دُور تو ایک اجنبی سر زمین میں پروش پار ہا ہے۔“ عبد الرحمن کا بیٹا اور جانشین ہشام (۸۹۶-۸۸۷) ایک نیک دل حکمران تھا۔ موسم کی شدت کے باوجود وہ اپنے کندھے پر آنکھ لیے ہوئے تھے کسی محتاج اور مفلس کی امداد کو پہنچ جاتا چونکہ وہ مذہب کا بہت زیادہ پابند تھا۔ اس لیے اس کے دور حکومت میں مذہبی علماء کا اثر و سرخ بہت بڑھ گیا۔ اس نے اس مسجد کو مکمل کر دیا جسے اس کا باپ ادھوری چھوڑ لیا تھا۔ اس نے اندرس کے باغی سرداروں کی سرکوبی کی اور فرانسی حملوں کو روکا۔ ہشام اور امام مالکؓ میں دوستانہ تعلقات تھے۔ اس نے اندرس میں مالکی فقہ جاری کرنے کی بہت کوشش کی۔ ہشام کے جانشین حکم (۸۹۶-۸۷۷) کو اپنے پورے دور حکومت میں اندر و فی بغاوتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ اس نے شاعروں، ارکیوں اور علوم و فنون کے ماہروں کو اپنے زندگیں جگہ دی۔ حکم نے دینی علماء کو سیاست سے الگ رکھنا چاہا۔ اس پر علماء مسجدوں اور بازاروں میں اس کی مذمت کرتے۔ پھونکہ ان علماء کا اثر ہسپانوی مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا اس لیے حکم کی مخالفت میں وہ عربوں سے بھی پیش پیش تھے۔ اندرس میں نسلی امتیاز تین صورتیں اختیار کر چکا تھا۔ ہسپانوی مسلمان بلا دیوں کو ملاستہ تھے۔ عیسائی عورتوں سے عربوں کی اولاد مولڈ کھلاتی تھی۔ غالص نسل کے عرب، بلا دیوں اور مولد دلوں کو تھارت سے دیکھتے تھے۔ بلا دیوں اور مولد عربوں کی مخالفت میں متحد ہو جاتے تھے۔ حکم کے خلاف بلا دیوں کی

بغادت میں دینی علمائے باادشاہ کی مخالفت کی۔ جب حکم کو اندر دنی بغاوتوں کا سامنا تھا تو شارل مین کے دو بیٹے لوئی اور چارلس اندرس کے شمالی صوبوں پر ٹوٹ پڑے۔ حکم نے انہیں پانی رہی نیز کے پار بھگا دیا۔ ہم ۱۸۰۴ء میں حکم کے جدشی غلاموں میں سے ایک نے ایک قطبی کے تھپڑ مارا۔ قطبہ کے عوام نے مشتعل ہو کر حکم کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ اس شورش میں دینی مدرسون کے ہزاروں طلبہ بھی شامل تھے۔ حکم نے اپنے محل میں سے انسانی سیالاب کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ بہادر انسانوں کی طرح حکم نے اپنے حواس پر قابو رکھا۔ حکم کے حکم سے محاصرین کے گلی کو چوں میں آگ لگادی گئی۔ شاہی محل اور قلعہ کو مسخر کرنے والے اپنے بال بچوں کے سچاؤ کے لیے بھاگ نکلے۔ حکم نے باخیوں کو سخت سزا دی۔ ہزاروں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ چند ایک جلاوطن فیض میں بس گئے اور دوسرے سکندریہ ہوتے ہوئے کریٹ جا پہنچے۔ بلادِ یون کی بغاوت پر قابو پایا جا چکا تھا۔ باعی سرداروں کی بھی سرکوبی کی جا چکی تھی۔ صرف اندرس کی شمالی سرحد پر قبائلی حملوں کے امکانات باقی تھے۔ زمان و امان کے اس دور میں عبدالرحمٰن دوم (۸۵۲-۸۶۲)

نے عمان حکومت سنبھال لی۔ یون کے سردار الفانس دوم نے مدینہ سلیم پر چڑھا کر دی لیکن شکست کھائی۔ فرانکوں نے بھی اندرس کے ایک حصے پر حملہ کر کے اسے تباہ و بر باد کر دیا۔ فرانک بھی شکست کھا کر واپس ہو گئے۔ عبدالرحمٰن دوم ہی کے عہدِ حکومت میں اندرس کے ساحل پر نارمنوں نے حملہ کیے۔ انڈسی بیڑے نے نارمنوں کو شکست دے کر اندرس کے بہت سے ساحلی شہروں کو تباہی سے بچا لیا۔ اسی اثنا میں قطبہ کے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آداب اور اخلاق میں نیم عرب بن جکی تھی۔ عام عیسائی جو پادریوں کے زیر اثر تھے، انہیں نہ صرف عربوں بلکہ نیم عرب عیسائیوں کے خلاف بھی انجام رکھا گیا۔ عبدالرحمٰن دوم کی حکومت کے آخری چند سال قطبہ کے ان عیسائیوں کی شورش پر قابو پانے میں صرف ہوئے جو سزا تھے موبت

کی تباہیں حکمرانوں کے دین پر خیر شریفیانہ اور گستاخانہ انداز میں نکتہ چینی کرتے۔ ان  
دافتہ کے باوجود عبد الرحمن دوم کا عمد حکومت شاذ ارتحا۔ علوم و فنون کی سرسری پر  
بہت کچھ صرف کیا گیا۔ عبد الرحمن دوم کی کوششوں سے قطبہ میں بغداد ایسی رونق پیدا  
ہو گئی۔ اسی حکمران کی دعوت پر شہور راگی زریاب بغداد سے قطبہ پہنچا۔ زریاب  
نے انلس کے طول و عرض میں موسیقی کے ماہر، شیدائی اور سرپست پیدا کر دیے۔  
ہسپانیہ کی موجودہ موسیقی میں عرب اثرات صاف لکھائی دیتے ہیں۔ عبد الرحمن دوم نے  
قطبہ کی رونق بڑھانے کے لیے کمی ایک نئی عمارتیں بنوائیں۔ عبد الرحمن دوم کے تین  
جانشینوں کو عرب سرداروں، ہسپانوی امیروں اور بربروں کی بغادتوں پر قابو پانے  
میں اپنی کوششیں صرف کرنا پڑیں۔ انلس کی سیاسی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ قدم قدم  
پر چھوٹی ٹپھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ بے چینی اور بد امنی کے اس دور پر عبد الرحمن  
سوم (۹۱۲ - ۹۶۱) اپنی ہمت اور بہادری سے قابو پانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔

**اصلاحات** اپنی مملکت کے اندر کسی قسم کی بغادت اور بدمنی کو برداشت نہیں  
کرے گا۔ ایک دلت کی لوٹ مارنے انلس کو ویراکر رکھا تھا۔ باخی سرداروں اور  
ان کے ساتھیوں کی لوٹ مارنے عوام کے دلوں میں پر امن زندگی بسرا کرنے کی خواہش پیدا  
کر دی تھی۔ عبد الرحمن سوم کی ہمت اور عوام کی اس آزادی نے ایک ایک کر کے بغادت  
کے تمام آثار مٹا دیے۔ عرب سرداروں کی قوت مٹانے کے بعد اس نے اپنی سلطنت  
کی حفاظت کے لیے ان غلاموں کی ایک فوج تیار کی جنہیں یونانی اور ونیزی تاجبر  
بچکنے ہی میں عبد الرحمن سوم کے ہاتھ بیج ڈالتے تھے۔ ان غلاموں نے آگے پل کر اتنا اقتدار  
حاصل کر لیا کہ وہ عرب حکومت کے زوال کا ایک بدبب بن گئے۔ اس فوج کی مدد سے  
عبد الرحمن سوم نے نہ صرف اندر وہی بغادتوں پر قابو پایا بلکہ چونکہ فاطمی حکمرانوں سے

حکمرانی اور شمال میں کیتائیل، یونان اور نادارے کے فوجی سرداروں کے پہم حملوں کی روک تھام کی۔ عبد الرحمن سوم ہپلا اندلسی حکمران ہے جس نے امیر المؤمنین کا القب اختیار کیا۔ اس کے طویل عہد حکومت میں اندلس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ قطبہ اپنے عربج پر پہنچ گیا۔ اس کے دربار میں بازنطین، فرانس، ہرمونی اور ٹالی کے سفیروں کی موجودگی اس کی عظمت کا ثبوت ہے۔

**علم و حکمت کا خزانہ** [ حکمران تھا۔ اس کا بیٹا حکم دوم (۹۷۴-۹۶۱) اگرچہ بہت بڑا عالم تھا۔ لیکن وقت پر اس نے ثابت کر دیا کہ عالم، میدان جنگ میں علم بھی اٹھا سکتا ہے۔ کتابوں میں گھرا ہوا انسان تواریخی پکڑ سکتا ہے جکم دوم کے جزئی غالب کو نہ صرف شمال میں کامیابی ہوتی بلکہ اس نے جنوب میں بھی فاطمی فتوحات کی روک تھام کی۔ حکم دوم کے پیش روحی سائنس، آرٹ اور لڑی پر کے سر پست تھے لیکن حکم دوم ان سب سے بازی لے گیا۔ اس کی کتاب دوستی نے اندلس کو کتب فوشی کا بہترین بازار بنادیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں چالیس لاکھ کتابیں تھیں۔ ابو الفرج صفحانی نے اپنی تصنیف کتاب الفہرست کا پہلا نسخہ حکم دوم کو بصحیح کر ایک ہزار دینار پاٹے۔ کتابوں کی عام اشاعت کے محل کا ایک حصہ دفتر کتابت کے لیے وقف تھا اس نے فلسفیوں کی خانکت کی جنہیں تنگ نظری پریشان کیے رکھتی تھی۔ حکم دوم کے عہد حکومت میں اندلس میں شاید ہی کوئی ان پڑھ دکھانی دیا ہو۔ اس نے غریب طبقے کے بچوں کے لیے قطبہ میں تائیں سکول جاری کیے، قطبہ کی یونیورسٹی ہی نے یورپی ملکوں میں فلسفہ اور سائنس، کی تعلیم کا شوق دلایا۔ جب انگلستان اور پیرس چھپی جھونپڑوں کے ڈھیروں سے عبارت تھے تب قطبہ کی روشنی اپنے عربج پر تھی۔

عبد الرحمن اول نے قطبہ کو بار و نق شر بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسے

اس کے جانشینوں نے بڑی سُگرہی کے ساتھ چارہی رکھا۔ قطبہ کے دورِ عروج میں رات کو ٹیپوں کی روشنی میں دس میل کا سفر کیا جا سکتا تھا۔ دس میل لمبے اور چار میل چوڑے سے قطبہ میں محلوں، باغوں، مدرسوں اور دوسری عمارتوں کا کوتی شمار نہیں تھا۔ قطبہ سے چار میل دور الزہرا کا محل اندرس کے حکمرانوں کے ذوق تعمیر اور شوقِ جمال کا ایک لاثانی مظہر تھا۔ قطبہ کی دس لاکھ آبادی کے لیے آب رسائی کا حیرت انگیز انتظام تھا۔ قطبہ ہی میں سب سے پہلے شولہی کی بنیاد رکھی گئی۔ جب یورپ کے ہر بڑے شہر میں صفائی کر گناہ اور نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ تب قطبہ میں ہزاروں حمام تھے۔ ان حماموں کو فلپ دوم نے ٹشانات بیک کفر کی بنابری مسماڑ کر دادیا۔ قطبہ کی جامع مسجد کے پچھے کچھے آثار آج بھی اس کی پرانی عظمت کے اظہار کے لیے موجود ہیں۔

## عبد الرحمن کے نزدِ جانشین

حکم دوم کی موت کے بعد حرم کی سازشوں حکم کے جانشین ہشتام دوم کی چیخت ایک قیدی سے زیادہ نہیں تھی۔ منصور (سابق ابن الی عامر) نے عربوں کی جگہ پر بول کو فوج میں بھرتی کیا۔ اس نے لیون اور نادارے کو قطبہ کا باج گزار بنا کر اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ ۹۹۱ء میں اس نے وزارت کو خاندانی میراث بنانے کے لیے قدم اٹھایا۔ اس اقدام میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس نے مدھی حلقوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فلسفے کی تباوں کو آگ لٹھا کر ان کا پڑھنا ممنوع قرار دے دیا۔ ۱۰۰۲ء میں منصور کی موت کے بعد اس کا بیٹا المظفر وزیر اعظم بنا۔ اس زمانے میں اندرس اور خاص کر قطبہ میں درمیانہ طبقہ سیاست میں حصہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ جب المظفر کے جانشین عبد الرحمن نے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو شاہی خاندان کے ایک فرد مہدی نے اسی درمیانے طبقے کی امداد سے قطبہ میں بغاوت کر دی۔ بنو عامر کے محل کو آگ لگادی گئی۔ مشام، مہدی کے حق میں

تخت سے دستبردار ہو گیا۔ مهدی کی بغادت کا اندرس کے دوسرے شرود پر بھی اثر پڑا۔ درمیانے طبقے کی رہنمائی میں خواص بھی بنو عامر کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ مهدی نے بہت تھوڑی مدت میں جو فوج تیار کی تھی۔ اس کے بیشتر افسر درمیانے یا سچلے طبقے کے لوگوں میں سے تھے۔ نیا حکمران مهدی تخت پر بیٹھتے ہی ان جماعتیوں سے الجھنے لگا۔ جن کی وجہ سے اسے کامیابی ہوئی تھی۔ اس پر بربول نے اموری خاندان کے ایک شہزادے سلیمان کو تخت کا دعوے دار کھڑا کر دیا۔ مهدی نے شہام کو پھر تخت پر بیٹھا دیا۔ سلیمانیوں اور مہمانیوں میں کتنی مہینے تک لڑائی ہوتی رہی۔ اس لڑائی میں قرطباہ پر جس پارٹی کا بھی قبضہ ہوتا وہ اُسے دشمن کا شہر جان کر تباہ کر دیتی۔ اس لڑائی میں قرطباہ کی بہت سی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ مهدی کے مارے جانے کے بعد سلیمان نے ہشام کو قید کر دیا۔ سلیمان بھی زیادہ مدت تک حکومت نہ کر سکا۔ اندرس کا ہر شہر مرکز سے کٹ چکا تھا۔ ہر شہر کا الگ حکمران تھا۔ گیارہویں صدی کے وسط میں قرطباہ کی شہری کوئی نے قرطباہ کو ایک مہمودیت میں بدل دیا۔ چند سال بعد قرطباہ کی سیاسی صورت حالات نے سوباتی حاکموں کو اپنی اپنی آزاد ریاستیں قائم کرنے کا موقعہ دے دیا۔ ان ریاستوں میں علوم و فنون کی ترقی جاری رہی۔ اندرس میں ان بھوپولی ریاستوں کا قیام کیا تھا کہ سیاسی اقتدار کا سبب بنا۔ فردی نینڈا اول کی موت (۱۰۶۵) کے بعد اس کے جانشین الفانسو ششم نے چند ایک نواحی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد اندرس کو زیر نگین لانے کے لیے اپنی فوج کو حرکت دی۔ پہلی نیکی عرب ریاستوں نے مراطی حکمران یوسف بن تشفین کو مدد کے لیے بلایا۔ شمالی افریقہ کے تازہ دسمبر بربول نے ۱۰۸۲ء میں الفانسو کو شکست دی۔ بہت تھوڑی مدت میں مرako کے حکمران نے سارے اندرس پر قبضہ کر لیا۔ المرابطین کے ذریحہ حکومت میں اندرس میں دینی علماء کا اذبیث بڑھ گیا۔ ان علمائے امام غزالی کی کتاب "اجیا العلوم" کے مطالعہ

پر پابندی الحادی جب یوسف کا جانشین ابوالحسن شمالي ہسپانیہ میں فتوحات حاصل کر رہا تھا شمالي افریقہ میں الموحدین قوت پکڑ رہے تھے۔ بارہویں صدی کے وسط میں مرکور الموحدین نے فرضہ کر لیا۔ المرابطین اور الموحدین کی لڑائیوں نے کیتائیل کے حکمران الفانسو نعمت کے سیاسی اقتدار کو بڑھا دیا۔ عرب ریاستوں نے بھرپور کو سے امداد مانگی۔ ۷۴ الٹیں عبد المؤمن نے ان کی امداد کے لیے فوج بیج دی۔ عبد المؤمن کے جنیلوں نے اندلس کو فتح کر لیا۔ عبد المؤمن کے دور حکومت میں مرکو علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ یعقوب کے عهد میں المولیں کی سلطنت اپنے عروج پہنچی۔ اس نے ہسپانیہ میں بھی کئی ایک نئے شہر فتح کیے یعقوب (۱۱۸۳-۱۱۹۹) علوم و فنون کی ترقی کے لیے مشہور ہے ان ماہ اور ابن رشد اس کے ہم عصروں میں سے تھے۔ یعقوب کی موت کے ساتھ ہی کیتائیل کے حکمران الفانسو نهم نے اندلس پر چڑھائی کر دی۔ صلاح الدین الیوبی سے پڑھئے صلیبی سپاہیوں نے ہسپانیہ میں پنج کر اندلس کے خلاف مذہبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ سپاہیوں کے اس جوش و خروش سے الفانسو نے پراپورا فائدہ اٹھایا۔ الموحدین کے زوال کے ساتھ ہی اندلس کی مرکزیت بھی ختم ہو گئی۔ اندلس پر چڑھپی ٹھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ اسی زمانے میں ابن احمد نے ایک ایسی ریاست قائم کی جو آئندہ اڑھائی سو سال تک عربوں کی تہذیب کا نظہر ہی رہی۔

ابن احمد نے غزناط کو اندلس میں عربوں کا آخری قلعہ بنادیا۔ اسی غزناط نے علوم و فنون میں قطبہ ایسی شہرت حاصل کر لی۔ ابن احمد نے غزناط میں الحمرا ایسا خوبصورت محل بنوایا۔ ابن احمد کے جانشینوں نے الحمرا کی آرائش پر بہت کچھ صرف کیا۔ دشمنوں میں گھر اسوا غزناط بڑی پیادی سے حملہ آور کامقابلہ کرنے والے، لیکن جب بیرونی دشمنوں اور اندر و فی سارشیوں نے ایکاکر لیا تو پھر غزناط کب تک مقابلہ کرتا۔ فردی نینڈ اور ازاں بیله کی شادی نے کیتائیل اور لیپوں کو متعدد کر دیا تھا۔ غزناط کا حکمران ابوالحسن جب اس اتحاد کے خلاف

لدر رہا تھا تو اس کے بیٹے ابو عبد اللہ نے غزاطہ میں بغاوت کر دی۔ فرمی نیند غزنی طاط  
کی طرف بڑھا۔ کل ماہ ڈی اسہر آج ایک وسیع گورستان تھا۔ (رم جنوری ۱۲۹۲) ابوبعد اللہ کو شمالی افریقہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔ انہیں اب کوئی ایسا مقام نہیں تھا  
جہاں عربوں کو پناہ مل سکتی۔

عقل و دانش مشغول برداروں، تہذیب و تمدن کے معماروں، علوم و فنون کے  
سرپرستوں اور صنعت و حرفت کے ماہروں کو اک میں چین کا جارہا تھا۔ انہیں کھروں  
سے نکالا جا رہا تھا، وحشیوں نے تہذیب کے اس قافلے کو لوٹ لیا جس میں ابن طجہ،  
ابن طفیل اور ابن رشد اپنی بغلوں میں فلسفے کی کتابیں دباتے ہوئے سفر کر رکھے تھے۔

## تیرھواں باب

# عثمانی سلطنت کا عروج

تamarیوں کے پھیلاؤ نے وسطیٰ اور مغربی ایشیا میں افرانفری اور نقل مکانی کا ایک سلسہ پیدا کر دیا تھا۔ اسی سلسے میں خراسان کے بدودی ترکوں کا ایک قبیلہ ایشیا تے کوچک کاروچ کرتا ہے۔ چارہ ہزار ترک اپنے سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں ارض روم کے آس پاس ڈیرے ڈالتے ہیں۔ تھوڑی مدت بعد پردایسوں کا یہ قافلہ ذات کو پار کرتے وقت اپنا سردار کھو بیٹھتا ہے۔ سردار کے دو بیٹے اس واقعہ کو پڑا شگون سمجھتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ سردار کے دوسرے دو بیٹے ارطغرل اور دندر اپنے ساتھیوں سمیت اوھر اوھر گھومنے کے بعد سلجوقی سلطنت کے نیچے کچھ حصوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایشیا تے کوچک کے اس علاقے پر تین سو سال سے ترک قابض ہیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی سفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ روک جاتے ہیں دو نوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ رُنے والے کون ہیں؟ مسافر کچھ نہیں جانتے "وستو اہم میدان جنگ میں ہیں۔ ہمیں بھی اس لڑائی میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمیں کمزور فریق کا ساتھ دینا ہے" ارطغرل کے ساتھی کمزور کی حمایت میں طافتوں سے رُنے لگتے ہیں۔ تamarی بجاگ نسلتے ہیں۔ قونیہ کا سلطان علاء الدین مدد کرنے والوں کے سردار کاشکریہ ادا کرنے کے لیے آگے

بڑھتا ہے۔ سلطان خوش ہو کر ارطغرل کو بروصہ کے قریب ایک جاگر بخششاہ ہے۔ اس ترک تقدیر آزمائی موت (۱۲۸۸) کے بعد اس کا پیٹا عثمان اپنے نے قیلے کا سردار بنتا ہے۔ یہی عثمان اس سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو تاریخ میں عثمانیوں کی سلطنت کہلاتی ہے۔

عثمان (۱۲۸۸-۱۳۲۶) نے اپنے باپ کی جاگیر کو ایک چھوٹی سی ریاست میں بدل دیا۔ جس کی شمالی حدود باسفورس اور بحر اسود کے کناروں تک پھیل چکی تھیں۔ اس ریاست کا روپ تقریباً سات ہزار مربع میل اور اس کا سب سے بڑا شہر بروصہ تھا۔ اناطولیہ میں اس ریاست نے کہتی ایک بڑی ریاستیں تھیں لیکن عثمان نے اپنی ریاست کے سلافوں، بیزانیوں اور ترکوں کو ایک لڑی میں پر ڈکر انہیں منظوم کر دیا۔ عثمان نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا اسے اس کے نوجوانی شہزادیوں نے ایک دوسرے کے بعد جاری رکھا۔ یہاں تک کہ سلیمان اعظم کے عہد حکومت میں عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ عثمان کے جانشین ارخان (۱۳۵۹-۱۳۲۶) نے اپنی ریاست کو تمیں گناہ بڑھا دیا۔ اس نے تھوڑے سے یورپی علاقے پر بھی قبضہ کیا۔ اس نے بروصہ کو اپنی راجدھانی بنایا اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا اس نے اتفاقاً اور تنخواہ دار فوج تیار کی۔ ارخان نے بازنطینی شہنشاہ کو اس کے ایشیا تی مقبولیات سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ عثمان اور ارخان نے عثمانی خاندان اور عثمانی ریاست کی طرح ڈالی۔ مراد (۱۳۵۹-۱۳۸۹) نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جب مراد نے شمالی ریاست کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو اس وقت بھی اناطولیہ میں عثمانی ریاست سے بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ عثمانیوں نے اگرچہ قسطنطینیہ کو گھیر رکھا تھا لیکن اس کی آزادی برقرار رکھی۔ بازنطینی راجدھانی اور تھرس میں ابھی تک رسائل کے ذریعہ باقی تھے۔ درِ دنیا اس کے دونوں طرف کے علاقوں پر مراد کا قبضہ نہ تھا، بلکن

اپنی فوجوں کو ایشیائی ساحل سے یورپی ساحل تک پہنچانے کے لیے اس کے پاس کوئی بڑا نہیں تھا۔ مراد نے جنسی بڑیے کا تعاون حاصل کیا۔ مراد نے تھریں، الجباریہ مقدودینہ، سرویا اور اناملویہ میں فتوحات سے اپنی ریاست کو پانچ گناہ بڑھا دیا۔ اناملویہ کی ریاستوں کو ختم کرنے کے لیے مراد نے سرویا اور بلغاریہ کے حکمرانوں سے امدادی مراد، یورپ کے مفتوحہ علاقوں سے ہر سال دس اور بارہ سال کی درمیانی عمر کے ایک مہزار لڑکوں کو جبری طور پر حاصل کر کے انہیں فوجی تربیت دیتا۔ اس فوج کے سپاہیوں کو شدید قسم کی فوجی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ اس فوج کے سپاہیوں کا شارک کھلاتے تھے۔ اس فوج نے آگے چل کر عثمانیوں کے لیے کتنی ایک علاقے فتح کیے لیکن آخر کار یہ فوج عثمانی سلطنت کے زوال کا ایک مدبب بنی۔

**بايزيد ملدرم** بايزيد ملدرم (۱۳۸۹ - ۱۴۰۳) پوتیس برس کی عمر میں اپنے باپ مراد کا جانشین بنا۔ بايزيد کا تقریباً سارا عہد حکومت فتوحات کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ایک بہت بڑی شکست ہے۔ بايزيد اگرچہ مہب کے بارے میں زیادہ پر دبار نہیں تھا لیکن بہادری میں وہ پہلے عثمانی حکمرانوں سے کم نہیں تھا۔ بايزيد نے کوسودا کی لڑائی میں سرپیا کے بادشاہ شیخ بن کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ سرویا کو خلی آزادی کے ساتھ ساتھ عثمانی سلطان کا باج گزار بنا لیا۔ سرویا کو گھٹتوں کے بل جھکانے کے بعد بايزيد نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کر لیا۔ بازنطینی شہنشاہ نے خراج دینا منتظر کر لیا۔ محاصرہ اٹھایا گیا۔ عثمانی فوج نے ایشیا تے کوچک کی ریاستوں پر ملہوں کر کتنی ایک نئے علاقوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ۹۳۴ء میں بايزيد کے بیٹے سیلماں شمائلی بلغاریہ کی راجہ حاکی تزودا پر قبضہ کیا۔ اسی اثنامیں نکولوپس اور دوسرے شہروں پر عثمانیوں نے قبضہ کرنے کے بعد منگری پر حملہ کرنے کی راہ پیدا کی۔ عثمانیوں کی فوج نے منگری کے سرحدی علاقوں میں دہشت پیدا کر دی، بايزيد منگری کے اندر دنی علاقوں میں داخل ہوا چاہتا۔

تھا کہ کرانیہ کے امیر کی سرگرمیوں نے اُسے ایشیا تے کوچک کاراٹہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ امیر کی فوج کو شکست دینے کے بعد سلطان بازیزید نے قریب اور دوسرے شروع پر قبضہ کر لیا۔ ایشیا اور یورپ میں فتوحات حاصل کرتے کے بعد بازیزید نے ستان اچاہا۔ آرام طلبی نے اُسے عیش و عشرت میں بدل کر دیا۔ سلطان کو اس حالت میں دیکھ کر ہنگری نے عثمانی سلطنت کی سرحدوں پر حملہ شروع کر دیے۔ بازیزید نے ثابت کر دیا کہ اس میں ابھی تو انہی باقی ہے۔ ہنگری نے یورپ سے ایک نئی صلیبی جنگ کی اپیل کی۔ فرانس، انگلستان، سکاٹ لینڈ، فلینڈرز، لمباردی، سوائیتے اور دوسرے علاقوں سے صلیبی سپاہی ہنگری پہنچ گئے۔ ہنگری، بوسنیا اور ولیشیا کے دستوں کو ملا کر صلیبی سپاہیوں کی تعداد ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی۔ ہنگری کا بادشاہ یگس من اس لشکر کا سردار تھا۔ اس صلیبی لشکر نے سرویاکی عیسائی سپتیوں کو لوٹنے کے بعد نکوپس کا محاصرہ کر لیا۔ سو اموں دن بازیزید بھی آن پہنچا۔ اس نے تین گھنٹوں میں اس صلیبی لشکر کو بھاڑا یا ہنگری اور ولیشیا میں چند ایک معزکوں کے بعد بازیزید ایڈریا نوپل (ادرن) پہنچ گیا۔ دہان سے عثمانی بھلی اچانک یونان پر گری۔ ایڈریا نوپل پہنچ کر سلطان نے قسطنطینیہ پر قبضہ کرنا اچاہا۔ بازنطینی سلطنت اسی شہر کی چار دیواری میں محمد دوختی۔ سلطان نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کرنا اچاہا کہ تمیور کی یلغار نے اسے محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کر دیا۔ تمیور اور بازیزید کی سلطنتوں کی سرحدوں کے مل جانے سے تازاری اور ترک میں لڑائی لقینی ہو چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سرحدی چبکتوں نے تلمخ مرانسلت کی صورت اختیار کر لی۔ ۱۴۰۰ء میں تمیور نے آرمینیا کی راہ سے اناطولیہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیواس کو تباہ کرنے اور بازیزید کے بیٹے ارطغرل کو قتل کر لئے کے بعد تمیور ایشیا تے کوچک میں آگے بڑھنے کی جگہ شام میں داخل ہو گیا۔ شام اور عراق میں فتوحات حاصل کرنے کے بعد تمیور ۱۴۰۱ء میں سیواس پہنچ گیا۔ تمیور اور بازیزید میں پھر تلمخ مرانسلت ہوتی۔ تمیور آگے بڑھا۔ سلطان پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا۔ انگورہ (القرہ) میں

دونوں کا سامنا ہوا۔ بایزید کی فوج کے ناتاری سپاہی تیمور کے ناتاریوں کے ساتھ مل گئے۔ سرداریا کے پرنیں شیفون اور اس کی فوج نے حملہ آور کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ بایزید نے بھی شجاعانہ کارناموں کا منظاہرہ کیا لیکن آخر کار عثمانی فوج کی شکست ہوئی اور سلطان بایزید کو فتار کر لیا گیا۔ تیمور نے مفتوح سلطان اور اس کے حرم کو ذبیل درسو اکرنے میں کوئی کسرتہ احتمار کھی۔ آٹھ مہینوں کی ذلت درسواتی کے بعد سلطان بایزید اس دنیا سے چل بسا۔ اسی اثنامیں تیمور نے بروصہ اور ہرنا پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ تیمور سے خوفزدہ ہو کر ایک شہر کے ہزاروں بچے اس کی عظمت کے گھیت تھا تے ہوتے ہوئے اگر کچھ یہ کیسا شور ہے؟ تیمور نے لوچھا جب تیمور کو حالات سے آگاہ کیا گیا تو اس کے حکم سے بچوں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روند دیا گیا۔ تیمور نے ایشیا تے کوچک کی بہت سی ان ریاستوں کو بھر سے زندہ کیا جن پر عثمانیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایشیا تے کوچک سے تیمور نے سمرقند کی راہ لی۔ وہ چین پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن موت نے اُسے آن دیا۔

تیمور کے حملے نے عاصی طور پر عثمانیوں کی سلطنت کو مٹا دیا لیکن ناتاری ایشیا کوچک میں اپنا اثر چھوڑے بغیر تاریخ کے اور اقی سے بہت جلد غائب ہو گئے۔ بایزید کی موت کے بعد یوں معلوم ہوا تھا کہ یا عثمانی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ ایشیا تے کوچک میں تیمور کی ایک چھوٹی ٹھوٹی جاگیری ریاستیں قائم کر چکا تھا۔ ایشیا تے کوچک کے بغیر عثمانیوں کے پورپی مقبوضات زیادہ دیر تک ان کے قبضے میں نہیں رہ سکتے تھے لیکن عثمانی نہ صرف تیمور کے حملے کے بعد بچ نکلے۔ بلکہ انہوں نے فتوحات کی ایک نئی مہم شروع کر دی۔ بایزید کے چھ بیٹوں میں سے پانچ انگورہ کی لڑائی میں شرکیے تھے۔ مصطفیٰ لڑائی میں مارا گیا۔ موسے اپنے باپ کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سلیمان، علیسے اور محمد انگورہ کی لڑائی سے بچ نکلے تھے۔ سلیمان ایڈریا نوپل بھاگ گیا۔

وزیر اعظم علی اور جاں شاروں کا سردار آغا حسن بھی اس کے ساتھ تھے۔ بازیزید کی موت کے بعد سلیمان نے سلطنت کے لیورپی مقبوضات پر قابض ہو کر اپنی سلطانی کا اعلان کر دیا۔ عیسیٰ نے بروصہ میں اپنے باپ کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا۔ بازیزید کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد ایشیا تے کوچک کے شمال مشرق میں چلا گیا۔ تیمور سے رہائی حاصل کرنے کے بعد تخت کا چھڑکا دعویدار موسے بھی آن پہنچا۔ چاروں بجا یوں میں سلطنت کے لیے کئی ایک مرکے ہوتے۔ جب موسے نے ایڈریانوپل سے ٹھہر کر قسطنطینیہ کا محاصرہ کیا تو بازنطینی شہنشاہ نے محمد کو امداد کے لیے پکارا۔ ایک عثمانی شہزادہ قسطنطینیہ پر حملہ کر رہا تھا اور دوسرے شہزادے کے ترک سپاہی بازنطینی شہنشاہ کے لیے قسطنطینیہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ موسیٰ نے محاصرہ اٹھایا۔ شہزادہ محمد نے اس کا پیچھا کیا۔ موسے کے ساتھیوں نے بغادت کر دی۔ وہ بے یار و مددگار تھا۔ اس سے پہلے سلیمان اور علیسے موسے اور محمد سے شکست کھا چکے تھے۔ موسیٰ کی شکست کے بعد محمد عثمانی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ تخت کا کوئی دعوے دار باقی نہیں تھا۔ محمد کا عہد حکومت (۱۴۲۱ء) پر امن تھا۔ اس نے سر دیا، ویشا اور البانیہ کے حکمرانوں کی بیانہ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ اس نے بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ ایک فاعلی معاملہ کیا اور کئی ایک شہروں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کی سرپرستی نے عثمانیوں میں شعرو شاعری کا ذوق پیدا کیا۔

**مراد دوم** (۱۴۲۱ء - ۱۴۵۱ء) کی بہت سی بھپوئی بھپوئی ریاستوں کے علاوہ سر دیا، بوسینا، سالوینیکا اور سوریا کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ ویشا ان کے ہاتھوں نے نکل گیا۔ مراد نے تیس سال کے دور حکومت میں دوبار اپنے آپ کر آرام اور راحت کے حوالے کر کر شیلیت تاج و تخت سے کنارہ کشی کی، لیکن حالات نے دونوں بار اسے تخت سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔ مراد دوم ابھی تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ بازنطینی شہنشاہ نے

ایک شخص کو بایزید کا بیٹا مصطفیٰ اخاہر کر کے اسے عثمانی تخت کا دعویدار بنادیا۔ مراد دوم نے مصطفیٰ اک لڑائی میں پکڑ کر مت کے گھاٹ آئر دیا۔ اب مراد نے بازنطینی شہنشاہ سے انتقام لینے کے لیے قسطنطینیہ کو فتح کرنا چاہا۔ مراد نے پہلی مرتبہ اس شہر کے محاصرے میں توپ کو استعمال کیا۔ اسی محاصرے کے دوران مراد کے چھوٹے بھائی نے الشام کو حکم میں سلطانی کا دعوے کر دیا۔ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اس نتے دعویدار کو بھی لڑائی میں پکڑ کر قتل کر دادیا گیا۔ چند سال تک مراد ایشیا تے کو حکم کی بغادت فرود کرنے، بازنطینی شہنشاہ کو اپنا باحگزار بنانے اور سالونیکا پر قبضہ کرنے میں معروف رہا اسی اثنامیں ہنگری اور عثمانیوں میں تصادم ہونے لگا۔ ہنگری کی فوجوں کے گماندار ہنیادی نے پہلے دو معرکوں میں عثمانیوں کو شکست دی۔ ان لڑائیوں میں جو بیس سال تک ہوتی رہیں کم و بیش ایک ہی نسل کی دو مختلف شاخیں ایک دوسرے سے مکراتی رہیں۔ ہنیادی کی اس کامیابی سے متاثر ہو کر ہنگری نے پولنڈ، ولیشا، بوینا، سرویا، دینس اور جینوآ کو متعدد کر کے پوپ سے عثمانیوں کے خلاف ایک صلیبی لڑائی کا علان کر دادیا۔ اتحادی فوج نے ۱۴۵۳ء میں ڈینیوب کو پار کیا۔ تین لڑائیوں میں ترکوں کو شکست دینے کے بعد ایڈریانوپل پر چڑھاتی کرنے کی جگہ ہنیادی اچانک بتوالٹ گیا۔ مراد اور اتحادیوں میں دس سال کے لیے لڑائی نہ کرنے کا ایک معاهده ہو گیا۔ معاهدے کی شرطیں طے پار ہی تھیں کہ مراد نے اپنے بیٹے کے حق میں تخت سے علیحدگی کا علان کر دیا۔ مراد نے اپنے بیٹے کو عیش و عشرت کے حوالے کر دیا۔ محمد دوم کی سلطانی کا علان ہو گیا۔ جب ہنگری والوں کو اس تبدیلی کا پتہ چلا تو ہنگری اسمبلی نے کارڈنل جولین اور پوپ کی رضامندی سے معاهدے کو توڑ دینا چاہا۔ معاهدہ توڑ دیا گیا۔ ہنگری کا بادشاہ کی لیڈس لاس ترکوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہنیادی نے بادشاہ کی مخالفت کی، لیکن جب اس سے بلغایہ کے تخت کا وعدہ کیا گیا تو یہ سورما بھی عہد

شکنی پر اتر آیا۔ عثمانیوں نے مراد کو پکارا۔ مراد آن پہنچا۔ اس نے تخت کو پھر سنپھال لیا۔ درہ کے قریب مراد نے لیڈس لاس کو شکست دی۔ لیڈسی لاس اور کارڈنل جوتیں رطاق میں مارے گئے۔ ہندیادی نے بڑی مشکل سے جان بچا تی۔ فتح پانے کے بعد مراد نے دوسری مرتبہ تخت سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن جان شاروں کی بغاوت نے مراد کے لمحات زنگیں کوبے کیف کر دیا۔ مراد کو پھر جلاایا گیا۔ مراد آن پہنچا۔ اس نے تخت کو سنپھال لیا۔ جان شاروں کی بغاوت پر قابو پانے کے بعد مراد اپنی موت تک حکومت کرتا رہا۔ یہ مدت لڑنے ہی میں صرف ہوئی۔ اس نے کوسودا کی لڑائی میں ہنگمی، سریما اور بویینا کی اتحادی فوجوں کو جو ہندیادی کی کمان میں لڑاہی تھیں شکست دے کر سڑیا کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا اور بویینا کو ایک باج گزار ریاست بنادیا۔ البانیہ کو فتح کرنے کی مراد پوری نہ ہو سکی۔

**محمد فاتح** | مراد دوم کا بیٹا اور جانشین محمد دوم (۱۳۵۱ - ۱۳۸۱) عثمانیوں کی تاریخ نے زبانوں میں بات چیت کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے عثمانی سلطان اپنے وزیروں سے مشورہ کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، لیکن نیا سلطان من مانی کرتا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی قسطنطینیہ کو فتح کرنا چاہا۔ سلطان کو اس اقدام میں پوری پوری کامیابی ہوئی۔ ۱۳۵۱ء میں قسطنطینیہ عثمانیوں کے قبضے میں تھا۔ محمد فاتح نے اپنے عمد حکومت میں عثمانی سلطنت کی حدود کو ایشیا اور یورپ میں ٹڑھایا۔ بویینا اور موریا کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ ولشا اور کریمیا با جگزار بن گئے۔ کرانیہ کے آخری سلوجوی حکمران کو قتل کروادیا گیا۔ بھروسہ کے کمی ساحلی شہر سلطان کے قبضے میں آتے۔ جزا اتر یونان میں سے کمی جزیرے کے فتح ہوتے۔ وینس کی جمہوریت سلطان سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئی۔ سلطان کے کازماویں کی فرست میں دنما کامیاب درج ہیں۔ قسطنطینیہ پر قبضہ کرنے کے

بعد سلطان نے بلگرڈ پر قبضہ کر کے مغربی یورپ پر ہٹ بولنے کے لیے راستہ صاف کرنا چاہا۔ پوپ نے بھر صلیبی لڑاکی کا اعلان کر دیا۔ اس نے لشکر کی کمیں بیشیدی کر رہا تھا۔ محمد فاتح نے اگرچہ بلگرڈ کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا تھا لیکن وہ بہت جلد شہر کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ ۱۴۵۰ء میں اس کا ایک جزوی روڈیں فتح کرنے میں ناکام رہا۔ محمد فاتح نے ایڈریانوپل کی جگہ قسطنطینیہ کو اپنی راجدھانی بنانے کے بعد درِ دانیال کے دونوں طرف قلعے بنادیاں کیں۔ اس نے ترکی بڑے کو بحرِ روم کا سب سے مضبوط بیڑا بنادیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں مسجدیں، سکول، کالج اور ہسپتال قائم کیے۔

بایزید (۱۴۵۱ء) کا عہد حکومت سابق عثمانی سلاطین کی طویل لڑائیوں سے نستاخالی ہے۔ بایزید کو منگری، وینس اور مصر سے لڑا کر لے رہا۔ منگری اور عثمانیوں میں صلح ہو گئی۔ بایزید دوم نے وینس کی جمہوریت سے موریا کے دو اور شہر چھپیں لیے۔ الشیارے کو چک میں تین قلعوں کو مصر کے حوالے کرنے کے بعد بایزید اور مملوکوں میں سمجھوتہ ہو گیا۔ بایزید دوم ایک پاک باز انسان تھا۔ اسے ادب اور فلسفہ سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ ترک ادبیات میں وہ اپنے چھوٹے بھائی چجم سے کم درجے کا شاعر مانا جاتا ہے۔ چجم کی شاعری ادب میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی زندگی ترک ادیبوں کا ایک مقبول موضوع ہے۔ بایزید دوم نے ہرزیگووینا کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ بایزید کے عہد حکومت کے آخری دو سالوں کی تاریخ اس کے بیٹے سلیم کی بغاوتوں کی داستان ہے۔ سلیم اپنی فوج سعیت قسطنطینیہ پہنچ گیا۔ جاں ثار سلطان بایزید دوم کی غیر جارحانہ زندگی سے تنگ آچکے تھے۔ لیکن اس پر انہوں نے سلیم کو شکست دے کر کریمیا بھکار دیا۔ سلیم نے فوج جمع کر کے قسطنطینیہ پر دھاوا بول دیا۔ جاں ثار اس کے ساتھ ہو گیے۔ بایزید کو

اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت سے دست بردار ہونا پڑا۔ بازیڈر ووم کے عہد حکومت میں روس اور ترکی میں سفارتی تعلقات قائم ہوتے۔ روس کے زار آئی دان سرم نے بازیڈر کے دربار میں اپنا سفیر بھیجا۔

سلیم نے اپنے آٹھ سال (۱۵۱۲ - ۱۵۲۰) کے دور حکومت میں عثمانی سلطنت کو دگنا کر دیا۔ اس نے کردستان کو ایران سے اور مصر کے مملوکوں سے مصرا، شام، اور عرب کے ایک حصے کو چھپیں کر عثمانی سلطنت کی حدود کو وسیع کیا۔ مصر میں مملوکوں کو شکست دینے کے بعد سلیم نے قاہرہ کے عباسی خلیفہ کے اقتدار کو مٹا کر اپنے لیے خلیفہ کا القب اختریار کیا۔

سلیمان کے بیٹے اور جانشین سلیمان کے دور حکومت (۱۵۲۰ - ۱۵۶۶) میں عثمانیوں کی سلطنت اپنے خود ج پر تھی۔ سلیمان فوجی قابلیت، عملی صلاحیت اور ذائقی شجاعت میں کیاں نیا ایں حیثیت کا مالک ہے۔ نظم و نستق اور قانون سازی میں اسے مہارت حاصل تھی۔ اس کے میزان حدل میں مخالف اور موافق عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس نے بھی اپنے پیشہ عثمانی سلاطین کی طرح تخت کے امکانی دعویداروں کو موت کے گھاٹ اتر دادیا۔ سلیمان نے اپنے دو بیٹوں کو اس لیے قتل کر دادیا کہ اس کے خیال میں وہ عثمانی تخت پر قبضہ کنے پاپتھے تھے۔ سلیم اپنے وزیر وں کو اس بے درمی سے قتل کر داتا تھا کہ بد دعا کے لیے یہ الفاظ خدا کرے کہ تم سلیمان سلیم کے وزیر بن جاؤ۔ کافی سمجھے جاتے تھے۔ سلیمان کے نو وزیر وں میں سے کتنی کو قتل ہونا پڑا۔ سلیمان نے بلگریڈ، روڈیس، ہنگری، کریمیا، موصل، بغداد، بصرہ، آرمینیا (چھ حصہ) میں، الجیریا اور طرابلس ( موجودہ لیبیا) کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔

فرانس کے بادشاہ فرانس اول نے پاریس نیج کی فاتحانہ سکیم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سلیمان کو ہنگری پر حملہ کرنے کی ترغیب دلاتی۔ ترک ہلپی مرتبہ

پورپ کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ ہنگری اور بولیما کے تاج لوٹی دو مکی ذات میں مسخر ہو پکے تھے۔ بلکہ میڈ اور بودا کے درمیان ترکوں اور ہنگریوں میں لڑائی ہوئی۔ لوٹی اپنے بہت سے سرداروں سمجھت لڑائی میں مارا گیا۔ بودا پنج کر سلیمان نے کاوش نہ زپولیا کو ہنگری کے تحنت پر بھایا۔ زپولیا کی تحنت نشینی سے ہنگری میں خانہ جنگی ہوتے ہی۔ چارلس پنجم کے بھائی آرک ڈیک فرڈنینڈ نے ہنگری کے تحنت کا دعوی کیا۔ مغربی ہنگری کے سرداروں نے ایک اجلاس میں فرڈنینڈ کو ہنگری کا بادشاہ چن لیا۔ فرڈنینڈ نے زپولیا کو شکست دے کر اسے پولینڈ کی طرف بھکاریا۔ زپولیا نے سلطان سے مدد مانگی۔ فرڈنینڈ نے بھی اپنا ملکی سلطان کے پاس بھج دیا۔ سلطان نے زپولیا کی مدد کے لیے ۲۹ ایں ایک نتی مہم جاری کر دی۔ سلطان نے ایک مرتبہ پھر بودا پر قبضہ کر لیا۔ زپولیا کو مفتوحہ ہنگری کا بادشاہ بنانے کے بعد سلیمان نے دایینا کا عرض کیا۔ اس وقت شہنشاہ چارلس پنجم اٹلی میں فرانس کے خلاف لڑ رہا تھا۔ دایینا کو سچانے کے لیے وہ کوئی فوج نہ بھج سکا۔ سلیمان نے تین ہفتواں تک دایینا کا محاصرہ کرنے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کیا۔ تین سال بعد سلیمان نے دایینا پر چڑھانی کرنے کے لیے ہنگری پر پھر حملہ کیا۔ اس مرتبہ آسٹریا کی فوج کی کمان چارلس نے خود سنبھالی۔ عام خیال یہ تھا کہ دونوں شہنشاہوں میں ایک قیصلہ کن لڑائی ہو گی، لیکن گنزر کے محافظوں نے سلیمان کے پردگرام میں تاخیر کر دی۔ گنزر پر قبضہ کرنے کے بعد سلیمان نے دایینا پر چڑھاتی حرثے کی جگہ اپنی فوج کو واپس ہونے کا حکم دیا۔ چارلس نے بھی لڑنے سے گریز کیا۔ سلطان اور شہنشاہ میں مقابلہ نہ ہو سکا۔ سلطان کی واپسی کے بعد زپولیا اور فرڈنینڈ میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ۳۸ ایں دونوں میں سمجھوتہ ہو گیا۔ زپولیا کو مشرقی ہنگری اور فرڈنینڈ کو مغربی ہنگری کا بادشاہ مان لیا گیا۔ اس معاهدے کے اٹھائیں سال بعد جب سلیمان کو مالٹا کی مہم میں ناکامی ہوئی تو بہتر بس کا بوڑھا

سلطان ہنگری پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ عثمانی فوج نے زیستیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ سلیمان کا وقت پورا ہو گیا۔ سلطان کے وزیر اعظم نے شہر کے فتح ہونے تک سلطان کی موت کی خبر کو چھپاتے رکھا۔

سلیم نے ترکی بڑے کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دی تھی۔ سلیمان نے بھی اس کام کو جاری رکھا۔ سلیمان کے بڑے کے امیر اور کپتان اس دور کے انہندی مہم پر دازوں کا خاک بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جنہوں نے بحربہ روم کے ساحلوں پر اپنے اڈے سے قائم کر رکھے تھے۔ ہسپانیہ، اٹلی، فرانس اور کبھی کبھی انگلستان اور اترستان کے ساحلی شہروں پر ان کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ سلیمان نے انہندی مہم پر دازوں کی ولیری اور مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان پر ترکی بحربہ کے بڑے بڑے خدوں کے دروازے کھول دیے۔ سب سے پہلے خیر الدین بار بودھہ نے سلطان کی دعوت قبول کی۔ خیر الدین بار بودھہ کسی سال تک بحربہ روم کی موجود کا مالک رہ چکا تھا۔ بحیثیہ روم کے ملکوں میں سے کسی ملک کا تجارتی مالک کو بھی اس کی منظومی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سترہزار پناہ گزین عربوں کو ہسپانیہ سے نکال کر الجیریا میں لے سایا تھا۔ سلیمان نے خیر الدین کو تونس پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ خیر الدین نے تونس کے اس سلطان کو شکست دی جس نے اپنے حرم میں ناپاک، شرمنگ اور ناپسند افعال جاری کر رکھتے تھے۔ سلطان تونس نے شہنشاہ چارلس پاپاک، شرمنگ اور ناپسند افعال جاری کر رکھتے تھے۔ سلطان تونس نے شہنشاہ چارلس سے امداد مانگی۔ شہنشاہ نے تونس کی دیواروں کے سامنے خیر الدین کو ایک سمندی لڑائی میں شکست دے کر سلطان کے شہر کو دل کھول کر رکھا۔ میں نہار تونسی قتل کیے گئے۔ دس ہزار کو غلام بنانے کیا گیا۔ مسجدوں اور دوسری بڑی بڑی عمارتوں کو جلا دیا گی۔ عثمانیوں کی بڑی سے بڑی فوج نے بھی کسی شہر میں اتنی تباہی نہیں مچائی ہو گی۔ جتنی شہنشاہ چارلس کے پاہیوں نے تونس میں مچائی۔ تونس کے سلطان کو

اپنی سلطنتی قائم رکھنے کے لیے کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ سلیمان چونکہ ان دنوں ایران میں لڑ رہا تھا۔ اس لیے وہ بار بروصہ کو کمک نہ بھج سکا۔ تو نس کی لڑائی کے تھوڑی دیر بعد جب عثمانیوں اور ہسپانیہ میں لڑائی چھپڑی تو سلطان نے خیر الدین کو قسطنطینیہ بلکر اُس سے ترکی بیڑے کا امیر بنادیا۔ ۱۵۳۸ء میں اس نے ہسپانیہ اور نیس اور پوپ کے اتحادی بیڑے کو شکست دی۔ وہ نیس کے سمندری بیڑے کو کتنی باشکست دے کہ بجزہ ایجمن کے کتنی جزیروں پر قبضہ کیا۔ بار بروصہ نے ۱۵۴۶ء میں قسطنطینیہ میں وفات پائی۔ بار بروصہ کی طرح ترغوت اور پیاسے بھی ترکی بھریہ میں شامل ہو گئے تھے۔ ترغوت نے سلطان سلیمان کے لیے طرابلس (لیبیا) فتح کیا۔ انھی اور ہسپانیہ کے ساحلی شہروں کے لیے ترغوت کا نام ہوا بنا ہوا تھا۔ ۱۵۶۵ء میں وہ مالٹا کی لڑائی میں مارا گیا۔ پیاسے نے ہسپانیہ اور نیس اور پوپ کے اس اتحادی بیڑے کو شکست دی ہجو طرابلس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس نے سلیمان کے لیے اور ان کو فتح کیا۔ پیاسے سے سلیمان کے اس بیڑے کا کمانڈر تھا، جس نے ۱۵۶۵ء میں مالٹا پر حملہ کیا۔ سلیمان کی سمندری سرگرمیاں صرف بحیرہ روم تک، ہی محدود نہیں تھیں بلکہ اس نے پیری پاشا کی کمان میں سویز میں ایک بیڑا رکھا۔ اس بیڑے نے بحیرہ احمر پر ترکی سلطنت چھایا۔ عثمانیوں نے میں اور عدن پر قبضہ کر کے خلیج فارس اور ساحل ہند کا رُخ کیا جہاں پر پر گالیوں نے انہیں شکست دی۔

سلطان سلیمان کا عہد حکومت صرف کامیاب جنگوں ہی سے عبارت نہیں۔ اس نے اپنی پالیسی کا اثر نظرم و نشق کے مختلف شعبوں پر چھپڑا۔ رشوت لینے والے عدل سے گریز کرنے والے افسروں کے لیے موٹ کی سزا عام تھی۔ سلیمان اعظم کا عدل تک ادیبوں اور شاعروں کی ایک بڑی تعداد کا مقبول موضوع ہے۔ اتنی لڑائیوں

کے باوجود سلیمان کو صرف دو سال کے لیے زامنا محاصل کی ضرورت پڑی۔ بہت سے ترک سلاطین کی طرح سلیمان کو بھی ادبیات سے ذوق تھا۔ اس کے اشعار کو کافی تقبلیت حاصل ہے۔ اس نے اپنی مہموں کا ایک روز نامچہ مرتب کیا۔ علوم فنون کی تربیت کے ضمن میں اس کا نام کافی مشہور ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں۔ اس کی عملیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی میں اسے قانون ساز، اور یورپ میں اسے عالی شان کے نام سے ٹکارا جانے لگا۔ اس نے اگرچہ جاگیری نظام کو برقرار رکھا لیکن اس کے زرعی قوانین نے ترکی کے کسانوں کی حالت کو یورپی کسانوں کی حالت سے بہتر بنایا تھا۔ مویا کے یونانی نوام نے دنیس کی خلامی پر عثمانی حکومت کو ترجیح دی۔ ہنگری کے کسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہنگری چھپڑ کر ترکی سلطنت کے صوبے روپیلیا میں آباد ہو گئی۔ بیس مختلف قوموں پر مشتمل عثمانی سلطنت کے کسی حصے میں بھی سلیمان کے عہد حکومت میں کسی قسم کی بغادت کا نہ ہونا اس کی انتظامی صلاحیت کا ثبوت ہے۔

سلیمان ہی کے عہد حکومت میں عثمانی سلطنت کے زوال کے اباب پیدا ہو چکے تھے۔ دیوان (کولسل آف سٹیٹ) کے اجلاس میں سلیمان شریک نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک پردے کے چھپڑے بیٹھ کر دیوان کی کارروائی سنتا۔ سلیمان کا شخصی اقتدار بڑھ گیا لیکن اس کے جانشین اس اقتدار کے بوجھ کو نہ سنبھال سکے۔ سلیمان ہی کے عہد حکومت میں حرم کا سیاست میں بہت زیادہ دخل ہونے لگا۔ اس رسم نے آگے چل کر عثمانی حکومت میں بہت سی پچیدگیاں پیدا کر دیں۔ ہر دیر کیلئے حرم کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہو گیا۔ حرم ساز شعل کامکن بن گیا۔ سلیمان نے اپنی روپی بیوی غورم کے ایما پر اپنے بڑے بڑے کر قتل کر کے عثمانی سلطنت کے مستقبل کو خراب کر دیا۔ غورم کا بیٹا سلیم۔ سلیمان کا جانشین بن گیا۔

عالی شان اور قانون ساز سیلیمان کا بیٹا عثمانیوں کی تاریخ میں سلیم شریف کہلاتا ہے۔ اس نے حکومت کے کام کا ج سے الگ ہو کر اپنے آپ کو شراب اور دوسری عشرتوں کے حوالے کر دیا۔ بہت سے درباری بھی اس کے ساتھ ہوئے۔ شراب کے گیت گاتے جانے لگے۔ سلیم کا وزیر اعظم سکولی سلطان اور اس کے بعین در拜لوں کی عشرت پنڈلوں اور بدستیوں سے دور رہ کر سلطنت کے بچاؤ میں معروف ہو گیا۔ سکولی کے پیش نظر دو بڑی بڑی سیکھیں تھیں۔ وہ خاکنا تے سویز میں ایک نہر کھدا کر کر ترکی بیڑے کے لیے بھرا جم اور بھر ہند میں جلدی پہنچ جانے کا راستہ نکالنا چاہتا تھا۔ وزیر اعظم سکولی کی دوسری سیکھیم یہ تھی کہ ڈان اور والکا کو اس عجگہ پر نہ کرنے کے ذریعہ ملا دیا جاتے جہاں ان دریاؤں میں میل کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ دوسری تجویز کو عملی صورت دینے کے لیے ضروری تھا کہ استرخان پر قبضہ کیا جاتے۔ رویوں اور عثمانیوں میں پہلی بار لڑائی ہوئی۔ عثمانی سلطنت کو سخت ہوئی۔ میں کی بغادت نے سکولی کو پہلی تجویز تک کرنے پر مجبور کر دیا۔ سنان پاش نے میں کی بغادت پر قابو پایا۔ سکولی نے تونس کو ہسپانیوں سے والپس لے لیا۔ ۱۵۷۰ء میں سکولی نے جزیرہ قبرص کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا، ہسپانیہ، وینس اور لوپ نے مل کر ترکوں کی بڑتی ہوئی سمندری فتوحات کی روک تھام کے لیے ایک بڑا تیار کیا۔ خلیج لیپانتو میں عثمانی اور اتحادی بیڑے میں تصادم ہوا۔ آسٹریا کا ڈان جون اتحادی بیڑے کا کانٹر تھا۔ اس سمندری لڑائی میں عثمانیوں کا تقریباً سارا بیڑا تباہ ہو گیا۔ وزیر اعظم سکولی کی کوششوں سے بہت تھوڑی مدت میں ایک مضبوط بڑا تیار ہو گیا۔ وینس نے باب عالی سے صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد ڈان جون نے اکتوبر ۳۷۵ء میں تونس پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال عثمانی بیڑے نے پھر تونس پر قبضہ کر لیا۔

سلیم کی موت (۱۵۷۰ء) کے بعد اس کا بیٹا مراد سوم تخت پر بیٹھا۔ اپنے باب پ

کی طرح وہ بھی نکھلتا تھا۔ سکولی نے ایران کے ساتھ جو لا اتنی چھپیری تھی وہ اس کی موت کے بعد بھی جاری رہی۔ مراد سوم کے عدھ حکومت کے چوتھے سال میں وزیر اعظم سکولی حرم کی سازش کا شکار ہو کر قتل ہوا۔ مراد سوم صرف حرم کی زندگی سے دافت تھا۔ اس کے ایک سوتیرہ بچوں میں سے سنتا ہیں اس کی موت کے وقت (۱۵۹۵) زندہ تھے۔

سلطان محمد سوم آنٹھ سال تک حرم ہی میں پڑا رہا۔ اس کا جانشین سلطان احمد بھی چودہ سال تک اسی طرح صورت رہا۔ سلطان احمد کی موت (۱۶۱۷) کے بعد حرم کی سازش جس سے چاہئی تخت دلوائی۔ سلطنت کی حدود میں کی ہوتی پہلی جاری تھی عثمانی سلطنت سے رہی تھی کہ کپری کی وزیری دزارت کی تاریخ ہے!

سلطانوں کی تاریخ کپری دزارت کی تاریخ ہے!

محمد کپری کی دزارت (۱۶۵۶ - ۱۶۶۱) کے بعد اس کا بیٹا احمد کپری عثمانی سلطنت کا وزیر عظم مقرر ہوا۔ احمد کپری نے اگرچہ عثمانی سلطنت میں چند ایک علاقوں کا اضافہ کیا لیکن اس نے ۱۶۶۳ء میں آسٹریا سے شکست کھانی جب سوبکی تے لوگرا تین پرچم کیا تو یوگراستی ٹھکانے کے مدد مانگی۔ کپری نے ان کی مدد کی۔ ترکوں اور پولوں میں چار سال تک لڑائی ہوتی رہی۔ سوبکی نے کپری کو کھی لڑائیوں میں شکست دی۔ آخری لڑائی میں ابراہیم پاشا نے سوبکی کو جو اس وقت تک پولینڈ کا بادشاہ بن چکا تھا شکست دی۔ احمد کپری کی موت (۱۶۶۶) کے بعد پرخیال کیا جاتا تھا کہ سلطان اس کے بیٹے زادے مصطفیٰ کو وزیر عظم مقرر کرے گا، لیکن سلطان محمد جبار م نے اپنے داماد قرا مصطفیٰ کو وزیر عظم بنادیا۔ قرا مصطفیٰ کو پولوں اور رومنیوں نے شکست دی۔ جب ۱۶۸۲ء میں مہنگری کے اس علاقے نے بغاوت کی جو شہنشاہ لیو پولنڈ کے ماختت تھا تو قرا مصطفیٰ نے اُسے آسٹریا پر مدد کرنے کے لیے اچھا موقع خیال کیا۔ دو لاکھ سپاہیوں کے ساتھ قرا مصطفیٰ دایناکی دیواروں

تمک جا پہنچا۔ شمس شاہ لیو پولڈنے پولینڈ کے بادشاہ سویں بیکی سے مدد مانگی۔ پولینڈ سے امداد ہے پہنچنے سے پہلے لیو پولڈ بوریا بھاگ گیا۔ اسی اثنامیں سویں بیکی اپنی فوج سمیت پہنچ گیا۔ سویں بیکی نے داینا کی دیواروں تکے ترکوں کو شکست دی۔ جب قرہ مصطفیٰ بلگرڈ پہنچا تو سلطان کے حکم سے قتل کردادیا گیا۔ عثمانیوں کی فتوحات میں گئیں۔ جارحانہ لڑائیوں کی وجہ مافع اور لڑائیوں کا دور شروع ہو گیا۔ پوسپ نے ترکوں کے خلاف ایک نئی سیلیبی رٹانی کا اعلان کر دیا۔ اتحادیوں نے کئی لڑائیوں میں ترکوں کو شکست دی۔ اسی اثنامیں مصطفیٰ اکبر میں سلطان محمد چہارم کو تخت سے علیحدہ ہونے پر محبوک کر دیا۔ سلطان محمد کے چھوٹے بھائی سلیمان کو تخت پر بھایا گیا۔ تیرہ سال بعد کپریلی خاندان نے پھر وزارت پر قبضہ کر لیا۔ (۱۶۸۹)

آسٹریا کی فوج ڈینیوب پار کر کے متعدد نیزہ میں داخل ہو چکی تھی۔ ترکوں نے اسے دو لڑائیوں میں شکست دی۔ ڈینیوب کے جنوبی علاقوں پر عثمانیوں کا پھر قبضہ ہو گیا۔ مصطفیٰ اکبر میں نے ملناریہ میں بڑھ کر آسٹریا کی فوج کو شکست دی۔ کپریلی ۱۶۹۱ء میں آسٹریا کی فوج سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ سلطان سلیمان اور سلطان احمد دوم کی موت کے بعد سلطان مصطفیٰ دوم تخت پر بٹھ چکا تھا۔ نئے سلطان نے فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لی۔ اس نے تسوار کی رٹانی میں آسٹریا کو شکست دی۔ اگلے سال ۱۶۹۷ء میں سلطان نے ہنگری پر بڑھائی کی۔ زینتا کی لڑانی کے دوران میں جاتشاروں نے بغاوت کر دی۔ عثمانی فوج کو شکست ہوئی۔ تسوار اور بلگرڈ سے ہوتا ہوا سلطان قسطنطینیہ پہنچ گیا۔ پرانی یوجین نے آگے بڑھ کر بوسنا کے بہت سے حصے پر قبضہ کر لیا۔ چورہ سال سے آسٹریا اور ترکوں میں لڑانی ہو رہی تھی۔ آخری صور کے آسٹریا کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب سلطان نے حسین کپریلی کو اپنا وزیر اعظم بنایا۔ ۱۶۹۸ء میں برطانیہ کے سفیر نے ترکی اور آسٹریا میں اس شرط پر سمجھوتہ کرنا آ�ا کہ آسٹریا، وینس اور پولینڈ نے عثمانیوں سے جو علاقے چھینے ہیں وہاں کے پاس رہیں۔ حسین کپریلی نے دیوان کا اجلاس بلاکر سمجھوتے کے لیے برطانیہ اور پولینڈ

کی وساطت کو منوالیا۔ زار پلٹر نے اعتراض کرتے ہوئے آسٹریا، وینس اور پولینڈ کو آگاہ کیا کہ وہ بريطانیہ اور پالینڈ پر اعتماد نہ کریں بیونکہ ان دونوں کے پیش نظر اپنا اپنا تجارتی مفاد ہے اس کے باوجود صلح کافرنس ہٹھی تھیں میں روس سمیت یہ سارے ملک شرکیں ہوتے کارلوز کافرنس میں بريطانی سفیر کی تجویز دل کو مان لیا گیا۔ وینس، آسٹریا اور پولینڈ نے ترکی کے ساتھ پھیس سال کے لیے دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ زار پلٹر نے عثمانیوں کے ساتھ صرف دو سال کے لیے دوستی کا معاہدہ کیا۔

یورپ کی تاریخ میں معاہدہ کارلوز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس معاہدے کے ثابت کردیا کہ عثمانی سلطنت سارے یورپ کا مسئلہ ہے۔ اس معاہدے نے وینس، آسٹریا، پولینڈ اور روس کو عثمانی سلطنت کے برابر درجہ دے دیا۔ وسطی یورپ پر ترکوں کے حملے کا کوئی خطرہ نہ رہا۔

## پھودھوال باب

# سلاطین دہلی،

۱۳۰۶ء تا ۱۳۵۶ء

**پس منتظر** اپنے تیکین کی موت کے بعد اس کا بیٹا اسحاق غزی کی ریاست کا حکمران بنا۔ اپنے تیکین کے ایک باثر خلام سبکتیگین نے بہت جلد اسحاق کو ہٹا کر غزنی پر قبضہ کر لیا۔ سبکتیگین (۹۶۷-۹۹۶) اور جے پال کی مملکتوں کی مرحدیں ملتی تھیں، دونوں اپنی اپنی حدود کو پھیلانا چاہتے تھے۔ چنانچہ دونوں میں رطافی یقینی بھی۔ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا، لیکن شکست کھافی۔ شکست کے بعد اس نے حندراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جے پال نے ایفاسے عمدے سے انکار کر دیا۔ اس پر سبکتیگین نے آگے بڑھ کر کابل اور پشاور کے درمیانی علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ اسی اثنامیں جے پال نے قنوج اور کالنجہ کے حکمراؤں کو ساتھ ملا کر غزوی سلطنت پر ہدایہ بول دیا۔ سبکتیگین نے اتحادیوں کو شکست دینے کے بعد پشاور پر قبضہ کر لیا۔ سبکتیگین کو بہت جلد تمازوں کے خلاف سامانیوں کی مدد کو پہنچنا پڑا۔ پشاور پر سبکتیگین کے قبضے نے غزویوں کو ہندوستان کا راستہ دکھایا۔ سبکتیگین کے جانشین محمود (۹۹۶-۱۰۳۰) نے اسی راہ سے ہندوستان پر پار پار حملے کیے۔ محمود کے جانشین علاء الدین نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ غزویوں نے ایک نیا لاہور بسایا۔ انہوں نے لاہور میں

جدید علوم کے مدرسے جاری کیے۔ غزویوں کے دور میں لاہور وسطی ایشیا کے مذہبیں شہروں سے لگا کھاتا ہوا گا۔ غزویوں نے غزنی میں جدید فارسی کو فرودخ دیا، لاہور میں انہوں نے ایک ایسی زبان کی بنیاد رکھی جس نے آگے چل کر اردو کی صورت اختیار کی۔ آج جب کہ اس خطہ کی تمام صوبائی زبانیں خوب ترقی کر رہی ہیں۔ اور تمام صوبائی زبانوں سے زیادہ سمجھی ابوی، لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔

علاء الدین حسین کی مرتہ کے تھوڑی ویربعوں کا بٹا اور جانشین ایک قاتل کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس پغوری سرداروں نے علاء الدین کے بھتیجے خیاث الدین کو شخت پر بٹھایا۔ خیاث الدین نے غزنی فتح کرنے کے بعد اسے اپنے بھائی شہاب الدین (محمد غوری) کے حوالے کر دیا۔ خیاث الدین نے اپنے باپ کو اپنی آبائی ریاست تک محدود رکھا، لیکن محمد غوری نے محمود غزنوی کی طرح ہندوستان کی طرف توجہ کی غوری نے سب سے پہلے ملتان اور سندھ کو فتح کیا۔ ۱۱۸۶ء میں اس نے پنجاب میں غزویوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لاہور پر قبضہ کیا۔ پانچ سال بعد وہ آگے بڑھا۔ اسلامی فوجوں نے رچوی راج کی کمان میں اسے تارین کی لڑائی میں شکست دی۔ اگلے سال اسی جگہ غوری اور اصحابیوں میں لڑائی ہوتی۔ اب کے غوری نے میدان مار لیا۔ اجھیکر کو فتح کرنے کے بعد غوری واپس چلا گیا۔ اس کے ایک جنیل قطب الدین ایک نے دلی اور کوئل (علی گڑھ) کو فتح کیا۔ اگلے سال غوری نے قنوج اور بنارس پر قبضہ کر لیا۔ گوالیار، گجرات اور کالنجر کے فتح ہو جانے سے شمالی ہندوستان پر غوری کا قبضہ ہو گیا۔

سلطان [جب تک محمد غوری زندہ رہا، قطب الدین ایک غوری کے والتر است سلطان] کی حیثیت سے غوری کے ہندوستانی مقبوضات پر حکومت کرتا رہا غوری کی موت کے بعد غور میں اس کے جانشین خیاث الدین محمود نے ایک کو سلطان دلی کا خطاب دیا۔ ایک سے ابراہیم تک کے حکمران سلطان دلی کا ملا تے ہیں سلطان

کا یہ سلسلہ غلام، خلجی، تغلق، سیدزادو دھی خاندالوں پر مشتمل ہے۔ ایک پہلا آزاد سلطان تھا۔ وہ ایک بہادر سپاہی اور بہتر حکمران تھا۔ ایک کے جانشین آرام نے ایک کے غلام اور داماود التمش کے لیے جگہ خالی کر دی۔ التمش نے یلدوز اور قباچہ کو شکست دینے کے بعد بنگال کے حکمران کو مطیع کیا ہی تھا کہ چنگیزی شکر جلال الدین کے تعاقب میں دریائے سندھ کے کناروں تک پہنچ گیا۔ تاتاری مغربی پنجاب کو دشمن کے بعد دوڑ گئے تا تاریوں کے جملے نے التمش کے اقتدار کو مضبوط کر دیا کیونکہ تاتاریوں کی سرگرمیوں نے التمش کے دو مخالف سرداروں یلدوز اور قباچہ کو ختم کر دیا۔ التمش شرزا (۱۲۱۱-۱۲۴۶) گواہیار اور اجین کو فتح کر کے اپنی سلطنت کی حدود کو وندھیا چلتک پھیلا دیا۔ التمش کا بیٹا اور جانشین چونکہ نالائق تھا، اس لیے امراء نے التمش کی بیٹی رضیہ کو تخت پر بیٹھا۔ رضیہ نے اپنی بہادری اور صلاحیت کا ثبوت دیا۔ لیکن جب رضیہ نے ایک جلدی علام کو سپہ سalar مقرر کیا تو ترک امیروں میں سے ایک نے بغاوت کر کے رضیہ کو قید کر لیا۔ رضیہ نے اسی ترک امیر التونیہ سے شادی کر لی۔ رضیہ اور التونیہ دلی کی طرف بڑھے لیکن ایک لڑاکی میں شکست کھانے کے بعد رضیہ اور التونیہ دلی کے قریب دہبائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دونالائق شرزا دل کی چند روزہ حکومت کے بعد التمش کا بیٹا ناصر الدین محمود (۱۲۶۶-۱۳۰۶) تخت پر بیٹھا۔ ناصر الدین محمود کے عہد حکومت میں اس کا وزیر اعظم بلبن ہی کرتا دھرنا تھا۔ ناصر الدین محمود کا عہد حکومت عبارت ہے۔ بلبن کے کارناموں سے۔ بلبن نے تاتاری حملوں کی روک تھام کی۔ ناصر الدین نے اپنے وزیر اعظم بلبن کو اپنا جانشین منفر کیا۔ وزیر اعظم بلبن اگرچہ بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن سلطان بلبن (۱۲۸۶-۱۳۰۶) نے تخت پر بیٹھتے ہی جوان تھمت ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے ایشیا کے ان شہزادوں کو دلی میں پناہ دی جنہیں تاتاریوں نے تاج و تخت سے محروم کر دیا تھا۔ بلبن نے تاتاری حملوں کی روک تھام کے لیے اپنی سرحدوں کو مضبوط کیا۔ اندرونی طور پر

اس نے صوبوں پر اپنے اقتدار کو کم نہ ہونے دیا جب بیگانے کے گورنر طغیر نے دلی کے کے خلاف بغاوت کی تو بوڑھا سلطان بااغی گورنر کی سرکوبی کے لیے دلی سے نکل پڑا۔ اس نے طغیر کو شکست دے کر اس کے ساتھیوں پر بہت زیادہ سختی کی۔ بلین نے تاتاری (منگول) حملوں کی روک تھام کا کام اپنے شہزادہ محمد کے میرد کر رکھا تھا۔ جب شہزادہ تاتاروں سے لڑتا ہوا مارا گیا تو بوڑھا باپ زیادہ دیر تک زندہ نہ سکا۔ بلین کی موت کے بعد خاندان غلامی زیادہ دیر تک سلطنت پر قابض نہ رہ سکا۔

جلال الدین کی تخت نشینی سے خلیجی خاندان (۱۲۹۰-۱۳۲۰) کی حکومت شروع ہوتی ہے۔ جلال الدین خلیجی کے عہد حکومت میں سلطان کے بھتیجے علاوہ الدین خلیجی نے سلطان کی منتظری حاصل کیے بغیر ربار، خاندانیش اور دیوگردی پر حملہ کیے۔ علاوہ الدین سونے اور چاندی کے انباروں کو سمیٹتا ہوا اللہ آباد کے قریب کارہ میں پیش گیا۔ علاوہ الدین نے سلطان کو بلا بھیجا۔ درباریوں نے علاوہ الدین کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا، لیکن جلال الدین نے کسی کی نہ سنی۔ بوڑھا چھپا محبت کے جذبات لیے ہوتے آگے ٹڑھا بھتیجا اپنے ہپلو میں خنجر چھپا پتے ہوتے تھا۔ جلال الدین کا کام تمام کر دیا گیا۔ علاوہ الدین نے اپنے چھپا کے خون کو دولت کے بوجھتے دبانے کے لیے اپنے سپاہیوں میں روپیہ پیسہ باٹھا۔ علاوہ الدین نے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک خون کیا، لیکن اس قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے جلالی امیروں اور عزیزوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دادیا۔ علاوہ الدین خلیجی (۱۲۹۶-۱۳۱۶) ایک قابل جرنیل اور طاقتور حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور تاتاری حملوں کو رد کا۔ اس کے جرنیل ملک کافور نے دکن کو فتح کرنے کی ہوئی۔ اس ہوئیں کی تسلیم کے لیے اس نے "سکندر شاہی" کا القب احتیا کیا۔ اس کی شخصیت کا کا اندازہ اس کے ان الفاظ سے لگایا جاسکتا ہے جو اس نے قاضی کے ایک سوال

کا جواب دیتے ہوئے کہے تھے: "میں نہیں جانتا کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، میں وہی کہتا ہوں جو میری سلطنت کے لیے مفید ہوتا ہے" اس نے درباریوں اور عالموں کی مشاورت کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے اندر وہ بغاوتوں کی روک تھام کے لیے شدید قوانین جاری کیے۔ اس نے کھانے پینے کی چیزوں کے نرخ محتوا کر کے مہنگائی کا خاتمہ کر دیا۔ علاوہ الدین خلجی کی زندگی کے آخری دنوں میں کتنی صوبوں میں بغاوت ہو گئی۔ ان بغاوتوں کے دوران میں وہ اس دنیا سے چل بسایا۔ علاوہ الدین خلجی کی مرگ کے پانچ سال بعد ولی کے تخت پر تغلق خاندان قابض ہو گی۔ غیاث الدین تغلق اور جلال الدین خلجی میں بہت سی مشابہت ہے۔ تغلق نے تمااریوں کی روک تھام کے لیے شمال مغربی سرحدوں کو مغلب طراپ کیا۔ اس کے بعد بجز ناخال نے دکن کے ان صوبوں کو فتح کیا جو باغی ہو چکے تھے۔ بجز ناخال کی والی پر اس کا باپ بشکال کی ہم سے آرہا تھا۔ بجز ناخال نے اپنے باپ کے استقبال کے لیے ایک چبوڑہ بندا یا۔ غیاث الدین تغلق کا اس چبوڑے سے تلے دب کر مرحانا بجز ناخال کے دل میں شک پیدا کرنے کی کافی گنجائش رکھتا تھا۔ علاوہ الدین خلجی کی طرح محمد بن تغلق نے اپنی فوج میں روپیہ پیسہ پاٹا۔ محمد تغلق (۱۳۲۵-۱۳۵۱) سلاطین ولی کے دور حکومت کی ایک نمایاں اور ممتاز شخصیت ہے، وہ ایک بہت بڑا عالم، اعلیٰ درجے کا خطاط اور بلند پایہ خطیب تھا۔ منطق، یونانی فلسفہ، ریاضیات اور طبعی علوم میں اسے مہارت حاصل تھی۔ وہ نمازوں کا پابند تھا۔ اس کی زندگی بہت پاکیزہ تھی۔ اس نے ملک کے طول و عرض میں ہسپتال اور محتاج خانے کھولے۔ میدان جنگ میں وہ ایک ہادر سپاہی تھا۔ حکم و بیش ایک سو سال سے پنجاب پر تمااری حملوں کا سلسلہ جاری تھا۔ تمااری کی مرتبہ ولی کی دیواروں تک پہنچ چکے تھے، ۱۳۷۸ء میں تمااریوں نے ولی کے لیے ایک نئی پیدا کر دیا۔ محمد تغلق نے تمااریوں سے دور رہنے کے لیے اپنی راجدھانی کو دیواری

میں لے جانا چاہا۔ اس نے مرکزی حکومت کے دفاتر کے علاوہ دلی کی ساری آبادی کو نئی راجدھانی میں لے جانے کا منصوبہ بنایا۔ محمد تغلق نے اپنی نئی راجدھانی کو دولت باد کا نام دیا۔ دلی اجڑگی لیکن دلی کی آبادی دولت تک نہ پہنچ سکی جتنے لوگ وہاں پہنچ سکے انہیں دلی واپس جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس نے اپنی سلطنت کو تamarیوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے ایران اور تamar کے تamarی اٹوں پر مہربانی کیا لیکن سلطان کو دونوں نہیں میں ناکامی ہوتی۔ سلطان کی نت نئی تجویزیوں نے شاہی خزانے کو خالی کر دیا۔ سلطان نے تائبے کی کرنی چلا تی لیکن وہ جعلی کرنی کی بھرمار کو نہ روک سکا۔ ایک ہم عصر موئخ کے الفاظ میں ”ہر گھر مکال بن گیا“ صوبوں کا مالیہ بھی تائبے کے نوٹوں میں آنے لگا۔ وسادرمی تجارت تباہ ہو گئی۔ جب تائبے کے ان سیکوں کی مالیت کنکروں کے برابر ہے تو سلطان نے اپنا فرمان واپس لے لیا۔ سلطان کی حکومت کی مشینری اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ کرنی کے اس نظام کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتی۔ سلطان نے اپنے خالی خزانے کو پر کرنے کے لیے اس حد تک شکیں بڑھادیے کہ دو آب رنگا اور جن کی سربز وادی اکے عوام بھکاری دکھاتی دینے لگے۔ جن کسانوں نے بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لینا چاہی ان لا جملی جانوروں کی طرح شکار کیا گیا۔ کہیتی باری ہو گئی ہوئی کھانے کو زبانی ہونے لگے۔ بھاول، بہار، دیوگری اور گجرات سب نے بغاوت کر دی۔ سلطان نے بغاوتوں کو دباتے کی ناکام کوشش کی۔ بھاول اور دکن، دلی کی سلطنت سے اگر ہو گتے قحط نے سلطان کی صیبتیوں کو بڑھادیا۔ سلطان نے اس موقع پر لیکیوں کو کم کر دیا، لوگوں کی ضرورتوں کے لیے آماج گھر کھلوکتے اور کسانوں کو سرکاری قرضے دلاتے۔ وہ مندھ میں ایک باغی سردار کا پیچھا کر رہا تھا کہ موت آن پیچی اس کی موت کے بعد شاہی فوج کو مندھ کے باغی سرداروں اور تamarی لشیروں نے بہت زیادہ قصان پہنچایا۔ مصیبت کی ان گھر طویل میں شاہی فوج کے افراد نے محمد تغلق کے چھپرے

بھائی فیروز شاہ کو اپنا بادشاہ چنا۔ فیروز تغلق بڑی مشکل سے اپنی فوج سمیت دلی پہنچ سکا۔ فیروز شاہ کی تخت نشینی نے برسوں کے شاہی تشدود کو ختم کر دیا۔ نئے سلطان نے بھال، دکن اور سندھ کی سیاسی آزادی کو مان لیا۔ اس نے دیران کھیتوں کو آباد کرنے کی طرف توجہ کی ٹیکس کم کر دیتے گئے۔ فیروز تغلق نے آبپاشی کے لیے نہریں کھد و ائم، تعلیم کے لیے سکول اور کالج جاری کراتے۔ کئی ایک پبلک عمارتیں بنوائیں۔ علاء الدین خلیجی نے جاگیرداروں سے زمینیں چھپیں کر انہیں تاخواہ دار ملازموں میں تبدیل کر دیا تھا لیکن فیروز تغلق نے جاگیرداروں کو پھر سے زمینوں پر سلطاط کر دیا۔ فیروز تغلق کی موت کے بعد اس کے بیٹوں اور پوتوں میں تخت کے لیے کشکش مکش ہوتی رہی۔ اس کشکش نے صوباتی گورنر دل کو آزاد ہونے کا موقعہ دیا۔ مرکزی حکومت کے رہبہ سے اقتدار کو تمیور کے چھلے منہتم کر دیا۔ خاندیش، مالوہ، گجرات اور جنپور، مرکزی حکومت سے کٹ گئے۔ تمیور کی واپسی کے بعد دلی کے تخت کے لیے پھر کشکش ہونے لگی۔ محمود تغلق کی موت (۱۴۱۳) کے بعد ملتان کے تمیوری گورنر خضرخان نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ خضرخان اور اس کے تین جانشین ۶ سال تک حکمران رہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ خاندان سید خاندان کہلاتا ہے اس خاندان کے حکمران اپنے آپ کو تمیور کا نائب کہلاتے تھے اس خاندان کی حکومت دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ سید خاندان کا آخری حکمران ایک افغان سردار بہلوں لودھی کے حق میں دلی کے تخت سے دستبردار ہو گیا۔ لودھی خاندان (۱۵۲۶-۱۵۱۳) کے باقی بہلوں نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے اس کی حدود کو بڑھایا۔ اس تھیجیس سال کی طویل لڑائی کے بعد جنپور پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو بنارس تک پھیلا دیا۔ بہلوں کے جانشین سکندر لودھی (۱۵۸۹-۱۵۷۱) نے بہار اور گوالیار کو فتح کیا۔ سکندر لودھی نے اگر کو اپنی راجدھانی بنایا۔ ابراہیم لودھی کے عہد حکومت میں دلی کی سلطنت

میں بغاوتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ پنجاب کے گورنر دلست خان لودھی نے کابل کے بادشاہ بابر کو مہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بابر نے ۱۵۲۶ء میں پانی پت کی لڑائی میں ابراهیم لودھی کو شکست دئے کہ مہندوستان میں ایک نئے حکمران خاندان کی بنیاد رکھی۔

**علماء کا اقتدار** سلاطین ولی سیاسی لفاظ سے مستبد حکمران تھے۔ دینی امور میں علماء کو بہت اقتدار حاصل تھا۔ علاؤ الدین خلجی نے نظام و نسق میں علمائی مذاہدات کو برداشت نہ کیا۔ اس نے حاکیت کے نظریہ کو ان الفاظ میں پیش کیا، جس طرح علماء و حانی امور میں خدا کے نائب ہیں اسی طرح بادشاہ دنیاوی امور میں خدا کا نائب ہے۔ علاؤ الدین خلجی نے مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا۔ بہرحال اس قوم میں علماء کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ بادشاہ کا انتخاب اُڑا کے ہاتھ میں تھا۔ سلاطین ولی تک عوام کی رسانی مشکل نہیں تھی۔ سلطان اپنے دربار میں اپنی حکومت کے مختلف شعبوں کے افسروں سے گفتگو بات چیت کرتے۔ اس کام میں وزیر ان کا ہاتھ بٹاتے۔ صوبائی گورنرلوں کو بہت زیادہ آزادی حاصل تھی۔ بعض حالتوں میں صوبائی حکومت بھی وراشت میں مل جاتی تھی۔ صوبائی گورنرلوں کا کام اپنے صوبوں کی سرحدوں کی حفاظت اور مرکزی خزانے میں مالیہ داخل کرنا ہوتا تھا۔ جب تک کوئی گورنر یہ فرماندا ادا کرنا رہتا اسے اپنے صوبے میں حاکیت کے اختیار حاصل رہتے۔ یہی اختیار مرکز کے خلاف کئی بار بغاوت پر آمادہ ہو جاتا تھا۔

داخلی امن و امان کے لیے ملبن کی گردشی اور بیوپار کو بہت فروع دیا۔ علاؤ الدین خلجی نے آتے دن کی بغاوتوں کی نیہ داری جاگیرداروں پر ڈالتے ہوئے ان کی جاگیروں کو سجن سرکار ضبط کر لیا۔ علاؤ الدین خلجی نے دو آب کے کسانوں کے

حاصل پر چاہس پنی صدی ملکیں لگا کر ان کی معاشی حالت کو خراب کر دیا۔ یہ خرابی بہت زیادہ نقصان دینے والی ثابت ہوتی اگر علاوہ الدین خلجی اشیائی کے نسخ مقرر کر کے ضروریات زندگی کو عوام تک آسانی سے نہ پہنچا دیتا۔ قحط کے دنوں میں سرکاری گوداموں سے سستے داموں غلہ فروخت کیا جاتا تھا۔ علاوہ الدین خلجی کی موت کے ساتھ ہی اس کامعاشی سسٹم ختم ہو گیا۔ دکان دار منہ مانگی قیمت لینے لگے۔ اور انی غائب ہو گئی۔ محمد تغلق کے مالیاتی سسٹم کو بھی ناکام ہونا پڑا۔ محمد تغلق نے صنعتی ترقی کے لیے بھی بہت کوشش کی۔ ریشم کے ایک سرکاری کارخانے میں چار سو کار بگر کام کرتے تھے۔ تمااریوں کی یورش نے ایشیا کے کئی ایک ملکوں کی صنعتی و تجارت کو بر باد کر دیا تھا چنانچہ تیرھویں اور چودھویں صدی میں ہندوستان کے حالات و ساوہی تجارت کے لیے بہت منفی تھے۔ اس دور کے غیر ملکی سیاح ہندوستان کی تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا کرتے تھے۔

سلاطین دلی کے دور حکومت میں تعمیرات نے نمایاں ترقی کی۔ اس دور کے سلاطین نے عمارتوں پر دل کھول کر روپیہ پسیہ خرچ کیا۔ اس دور کی عمارتوں میں ہندوستانی فن تعمیر کا بہت بہکا اثر دکھاتی دیتا ہے۔ ان عمارتوں پر اسلامی تعمیرات کا اثر آنکھاں لب پہنچے کہ ہندوستانی فن تعمیر کا اثر بعض حالات میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ ایک اور لمحش کے عہد میں قطب مینار کے علاوہ دلی، اجmer اور بدالوں میں کئی ایک مسجدیں تعمیر ہوتیں۔ قطب مینار دوسو بیالیں فٹ اونچا ہے۔ تعمیرات کی تاریخ میں اس کا شمار نوا در میں سے ہے۔ اگرچہ علاوہ الدین خلجی کا بہت سا وقت لڑائیوں میں صرف ہوا، لیکن اس پر بھی اس نے کئی ایک قلعے، تالاب اور محل بنوائے۔ قلعہ سری، ہزارستون، علاقی دروازہ اور حوض خاص اسی خلجی سلطان کے دور کی یاد گاریں۔ تمااریوں کے متواتر حملوں کی وجہ سے سلطنت کو وفا عی سرگرمیوں پر بہت کچھ صرف کرنے پڑتا تھا پھر بھی فیروز تغلق

کے عہد میں شہر دل، مسجدوں، محلوں، تالابوں اور باغوں پر بہت کچھ صرف کیا گیا۔ فیر فرز آباد، فتح آباد اور حصار فیروز آسی کے لباس تے ہوئے شہر ہیں۔ محمد تغلق کے نام پر فیروز تغلق نے گوتی کے کنارے جون پور کی بنیاد رکھی۔ فیروز تغلق کی موت کے بعد سلطنت کے جن صوبوں نے مرکز سے آزادی حاصل کر لی تھی۔ دہلی تیاریت اور دوسرے فنوں کو ترقی کرنے کا موقعہ مل گیا۔ جون پور، گجرات اور مالوہ نے اس موقع سے پورا پورا فنا تھا۔

سلطنتِ ولی کے مختلف صوبوں کی زبانوں کے ادب سے قطع نظر اس دور کی درباری زبان فارسی میں کمی ایک باکمال شاعر اور مورخ پیدا ہوئے۔ اس دور کا ممتاز ترین شاعر امیر خسرو فارسی اور مہندی دلوں پر عبور رکھتا تھا۔ اُس دور کے فارسی مورخوں میں منہاج سراج (طبیعت ناصری) ضیا الدین برلنی (تاریخ فیروز شاہی) سراج غفیف (تاریخ فیروز شاہی) اور سعیین بن عبد اللہ (تاریخ مبارک شاہی) بہت مشہور ہیں۔ شعر اور تاریخ کے علاوہ ادب فلسفہ اور ویڈیات پر بھی فارسی میں بہت کچھ لکھا گیا۔ اس دور میں سنکریت کی چند کتابوں کو فارسی میں منتقل کیا گیا۔

سلطنتِ ولی کے قیام نے ہندوستان کے لوگوں کو مذہبی اور مجلسی طور پر تاثر کیا۔ اسلام کا عقیدہ توحید ہندوستان کے مختلف حصوں کے سوچ، بچار اور اصلاح کام کرنے والوں کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسلام کی تعلیمات کے زیر اثر ہندوستان کے عوام میں محبگنتی کی تحریک کو مقبولیت حاصل ہوتی۔ رامانج، رامانند، ولیجہ اچاریہ، چھتیسا، نام دیوا، کبیر، نانک اور حسین شاہ اس تحریک کے علمبردار تھے۔ ازمنہ وسطی کے ہندوستان کے فاتحین کی زبان ترکی اور فارسی تھی۔ شمالی ہندوستان میں جب فارسی اور دیسی زبانوں کا مlap ہوا تو اس سے ایک نئی زبان پیدا ہوتی۔ یہ کتاب اسی زبان میں لکھی گئی ہے۔

محمد تغلق کی موت کے بعد بیگانہ، دکن، اور مندھولی کی مرکزی حکومت سے آزاد ہو چکے تھے۔ فیروز تغلق نے ان علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی ناکام جدوجہد کی۔ فیروز نے فوجی سرداروں اور امیروں کو ٹپی ٹپی جاگیریں دے کر سلطنتِ دلی کے اقتدار کو کافی نقصان پہنچایا۔ فیروز تغلق کے نالائق جانشینوں نے اس نقصان کو اور ٹپھادیا۔ سلطنتِ دلی کی گرتی ہوتی دلوار کو تمیور کے حملے نے زمین کے ساتھ ملا دیا۔

# پندرھواں باب

## تیمور

تیمور کو معمولی سی ریاست بھی و راشت میں نہیں ملی سختی لیکن اس نے ایک بہت بڑی سلطنت اور ایک اہم حکمران خاندان کی بنادالی۔ وہ اپنے دارالحکومت سے اٹھارہ سو میل دوڑتا تاریوں کی شاخ زرین لشکر کے بادشاہ سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دلی کی سلطنت اس کے حملے کی تاب نہیں لاسکتی۔ وہ انگورہ (الفقرہ) میں بازی یہ سے بکرا تاہے۔ اس کی سلطنت کو پار کرنے کے لیے قافلوں اور مسافروں کو درہ مزار میل کا سفر کرنا پڑتا۔ تیمور نے عثمانیوں کی فتوحات کو بخوبی دیر کے لیے روک دیا۔ اس نے دلی کی سلطنت کو کمزور کر کے اپنے خاندان کے ایک تقدیر آزمائے کے لیے ایک نئی سلطنت کی راہ پیدا کی۔ اس نے زرین لشکر کو خلکت دے کر رویوں کو موقعہ دیا کہ وہ تاری اقتدار سے آزادی حاصل کر لیں۔ ہم تیمور میں وہ تمام خوبیاں اور خامیاں پاتے ہیں جو اس پایہ کے کسی فاتح میں ہو سکتی ہیں۔ اس کا حکم قتل اور اذین عفو اس کی ذہنی کیفیت کا نتیجہ ہوتے۔ اس کے مظالم اور انعام اس کی مرضی کے تابع تھے۔ سمرقند کے جنوب میں صدیوں سے برلاں قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل چینی خاندان کے حکمران کے تابع تھے۔ تیمور کا باپ برلاں کے ایک قبیلے کا سردار تھا۔ — جب تیمور جوان ہوا تو اسے صحرائی قبائل لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ وس سال کے متواتر معرکوں کے بعد ۱۳۶۹ء میں تیمور نے سمرقند کو اپنی راجدھانی بنانا چاہا۔ تیموری دربار کو سمرقند میں لے جانے سے پہلے تیمور کے حکم

سے شہر کو آراستہ کیا گیا۔ کئی ایک نئی حمارتیں کھڑی کی گئیں۔ شہر کے بڑے بڑے دروازے سے مرکز میں بازار تک پکی سڑکیں بناتی گئیں۔ ہرات سے آتے ہوئے یا لائے ہوئے کار بیگروں، معماروں اور انجینئروں نے تیمور کی راجدھانی کی رونق پڑھادی۔ تیمور نے صرف سمرقند کا مالک تھا بلکہ اس کی سلطنت پانچ سو میل کی لمبائی پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو چاروں طرف پڑھانے کی فکر میں تھا۔ اس کے سامنے تاتاریوں کی تاریخ کے اور اقی سمجھرے پڑے تھے۔ اس کے ذمہ میں چنگیز خان کی فتوحات کا پورا پورا نقشہ تھا۔ عالمگیر فتوحات کی تیاری میں ”طلائی لشکر“ ایران، ہندوستان اور چین ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ اسی آنما میں طلاقی لشکر کے تاتاری خان کا ایک قریبی شہزادہ جو کریمیا کا حاکم تھا۔ تیموری دربار میں پناہ لینے کے لیے آتا ہے۔ مرتاتے کے تاتاری خان سے لڑنے کا بہترین موقعہ ہاتھ آگیا۔

خان نے تیمور کے دربار میں ایک ایچی بھیج کر شہزادہ توکتا میش کو والیں بھیج دینے کا مطالبہ کیا۔ تیمور نے خان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ سمرقند کے تیمور اور سراتے کے خان میں لڑائی یقینی ہو گئی۔ توکتا میش نے تیمور کی مدد سے دو مرتبہ خان کی سلطنت میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن ہر بار طلاقی لشکر سے شکست کھاتی۔ اروس خان کے مرلنے کے بعد توکتا میش سراتے کے تخت کا دعوے دار بن گیا۔ چنگیز کے سب سے بڑے بیٹے چوچی نے جنوبی روس کا بہت سا علاقہ فتح کیا تھا۔ چونکہ اس کے بیٹے باتونے اپنے خیبر پرسنہری کی طرف ڈال کر اپنی شوکت کا منظاہرہ کیا تھا۔ اس لیے تاتاریوں کی یہ شاخ سمندری لشکر کو ہلاتی ہے۔ تیمور کے زمانے میں چین اور ایران کے تاتاری اپنی بدودی عادات ترک کر چکے تھے۔ لیکن سمندری لشکر کے تاتاریوں کو جنوبی روس کے میدان میں روایتی بدودیت میں جگڑے رکھا۔ سمندری لشکر کے خان کی راجدھانی سراتے میں بھی۔ توکتا میش

اسی سراتے کے سخت کا دعوے وار تھا۔ سہری لشکر کے تاماری اس زمانے کے میلوں سے مذب تھے۔ روئی شہزادے خان سراتے کو خراج اور تحالف بھیجتے۔ ماں کو کے روئی شہزادے دستی کی لیغار کو روک کر ماسکو کی چھپولی ریاست کے مستقبل کو تبدیل کر دیا۔ سراتے کے تاماری، تعلیم اور تہذیب میں ماسکو کے باشندوں سے بہت آگے تھے۔ مشرقی یورپ کا سیاسی توازن سراتے کے تاماریوں کے ہاتھ میں تھا۔ تیمور کی مدد سے توکتا میش آنہ صحی کی طرح بڑھا اور والگا کے کنارے پہنچ کر سراتے پر پر قابض ہو گیا۔ سہری لشکر کا خان بننے کے بعد توکتا میش نے روئی شہزادوں سے خراج مانگا۔ دستی کی قیادت میں، دو سال پہلے یہ شہزادے خان سراتے کو شکست دے چکے تھے۔ وہ توکتا میش کو خاطر میں نہ لاتے۔ شہروں اور قصبوں کو جلا تا ہوا سہری لشکر آگے بڑھا۔ ماسکو اس لشکر کو نہ روک سکا۔ ماسکو میں لوٹ مار مچانے کے بعد توکتا میش سراتے پہنچ گیا۔ روئی شہزادے خراج دینے لگے۔

توکتا میش نے اس بات کو مہبت جلدی بھلا دیا کہ اس کی کامیابی میں تیمور کا ہاتھ تھا۔ اس نے کسی وجہ کے بغیر تیموری سلطنت پر حملہ کر دیا۔ جب توکتا میش اپنے لشکر سمیت سمرقند کے قریب پہنچا تو اس وقت تیمور بجزیرہ خزر کے کنارے پر لانے میں مصروف تھا۔ تیمور کو سمرقند پر توکتا میش کی لیغار کی اطلاع دی گئی۔ تیمور، حملہ آور سے پہلے سمرقند جا پہنچا توکتا میش جس تیزی سے آیا تھا۔ اس تیزی سے جنوبی روس کے میدانوں کی طرف بھاگنے لگا۔ تیمور نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ توکتا میش سلطنت کے مرکز میں پہنچ کر توکتا میش سے لڑنا چاہتا تھا۔ اس اقدام میں تیمور نے اپنی سلطنت کو داد پر لگا دیا۔ اٹھارہ ہفتوں میں اٹھارہ سو میل طے کرنے کے بعد تیمور کا توکتا میش کی فوج سے سامنا ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی دو گھر سوار فوجوں کی اس لڑائی میں تیمور کی عسکری قابلیت نے توکتا میش کو بچکا دیا۔ تیموری فوج نے والگا کے دلوں مرف کی بستیوں کو خوب لوٹا۔ لوٹا۔

کے بعد تیمور نے والٹاگ کے گزارے سات دن عیش و عشرت میں بس رکیے۔ آٹھویں دن تیمور نے سمرقند کی راہ لی۔

تیمور کے والپیں ہوتے ہی تو کتابیش پھر سنہری لشکر کا سردار اور سراۓ کا خان تھا۔ تین سال بعد تیمور اور توکتا میش میں جو لڑائی ہوتی اس میں تیمور نے بڑی مشکل سے جان بچائی۔ تیمور نے سنہری لشکر کے اقدار کو ختم کر دیا۔ توکتا میش شامل جنگلوں میں بجاگ نکلا۔ سنہری لشکر کے بہت سے قبائل کریمیا، ایڈریانوپل اور ہنگری کی طرف چل دیئے۔ چند قبائل تیمور کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تیمور نے سراۓ کی ساری آبادی کو سردی میں مرنے کے لیے شہر سے باہر نکال دیا۔ شہر کی چوبی عمارتیں چند گھنٹوں میں راکھ کاڈھیرین گئیں۔ استرخان اور اس کے باشندوں پر بھی سیی بستی۔ تیموری لشکری ڈان کے کناروں کے ساتھ کوچ کرنے والا۔ ماسکونے خطرہ محسوس کیا۔ تیمور کے فزدیک ماسکو ایک سر راہ بستی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہو گا۔ ڈان کے کناروں سے تیمور والپیں ہوا۔ والپی پر اس نے جو چیز کے جانشینوں کی سلطنت کے کھنڈروں کو دیکھا۔

تیمور اگرچہ موت نکے منہ سے بچ نکلا تھا۔ لیکن موت اس کے دو بیٹوں کو اس سے چھین چکی تھی۔ جہانگیر بہت پہلے مر جاتا تھا۔ جب اس کے دوسرے بیٹے عمر شیخ کے مرنے کی اُسے اطلاع ملی تو تیمور نے کام خدا نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ ان الفاظ کے بعد اس نے اپنی فوج کو سمرقند کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کیا یہ ہزاروں بالپیں کے لاکھوں بیٹوں کے قاتل پر اپنے بیٹے کی موت کا اثر تو نہیں تھا؟ سمرقند پہنچ کر تیمور نے اپنے بیٹے جہانگیر کے مقبرے کو بڑھا کر عمر شیخ کو دیں دفن کیا۔ تیمور کی ہوس ملک گیری ابھی باقی تھی۔

شاه ایران کی موت کے بعد اس کے دو بیٹوں نے باوشاہیت کی الگ الگ

وکالیں کھول لیں۔ تیمور اور ایران کے تعلقات اگرچہ دوستاز تھے لیکن تیمور ایران کی سیاسی صورت حالات سے ناائدہ اٹھاتے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ۱۴۸۶ء میں تیمور نے ایران پر بلہ بول دیا۔ اصفہان کی رونق خاک میں مل گئی شیراز اور درے شہزادوں نے تیمور کی اطاعت کر لی۔ دو سال بعد تیمور وسطی ایشیا اور ایران کا مالک تھا۔ سمرقند میں تماارپوں کا خان ایک محل میں زندگی بس رکنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا گیا تھا خان کی موجودگی میں تیمور "امیر تیمور گورگان" سے بڑا القب اختیار نہ کر سکا۔ تیمور کی واپسی پر ایرانی شہزادوں میں پھر لڑائی ہونے لگی۔ شاہ منصور نے اصفہان اور شیراز پر قبضہ کر لیا۔ اس نے تیمور کے پلے جملے میں اس کی اطاعت نہیں کی تھی۔ شاہ منصور کے سیاسی اقتدار کو تیمور نے اپنے خلاف بغاوت خیال کیا۔ ایران پر اس بغاوت میں تیمور کو شیخ الجبال سے بھی لڑا پڑا۔ شاہ منصور نے بڑی بہادری سے حملہ آور کا مقابلہ کیا۔ منصور نے دو مرتبہ تیمور پر وار کیا، لیکن تیمور بسی نکلا۔ ایک تیمور می سپاہی نے آگ کے بڑھ کر شاہ منصور کا سرکاٹ لیا۔ شاہ رُخ نے اسے تیمور کے گھوڑے کے قدموں میں ڈال دیا۔ ایران تیمور کی جیب میں تھا۔ شیراز اور اصفہان کے سو داگروں، فاضلوں اور کاریگروں کو سمرقند کی رونق بڑھانے کے لیے تیمور کی راجعہ ہانی میں پہنچا دیا گیا۔

تیمور کی بغاوتوں نے مصر اور بغداد کے سلاطین کو اس کے خلاف متحدہ محاذ بنانے پر مجبور کر دیا۔ عثمانی سلطان یورپ کی فتوحات میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ اتحادوں میں شامل نہ ہو سکا۔ جب تیمور کو سلطان بغداد کی فوجی تیاریوں کی خبر ملی تو اس نے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان احمد وجلہ پار چلا گیا۔ تیمور می سپاہیوں نے اس کا پیچھا گیا۔ سلطان دمشق میں داخل ہو چکا تھا۔ بغداد سے تادان وصول کرنے کے بعد تیمور نے دمشق کی طرف کوچ کیا۔ تیمور می فوج بغداد کے سارے بخوبیوں اور عماروں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ سلطان احمد و دمشق ہوتا ہوا قاہرہ میں پناہ گزیں ہو گیا۔ تیمور نے

سلطان مصر کو ایک خط لکھا۔ سلطان نے تیموری امپریوں کو قتل کروادیا۔ تیموری تباہ کاری کو دعوت دی جا چکی تھی، لیکن تیمور نے اچانک سمرقند کی رلوی۔ دس سال تک تیمور اپنی راجدھانی کی رونق پڑھانے میں مصروف رہا ہندستان پر چمدہ کیلئے تاتاری فوج تیار ہو گئی۔ ہندوکش پار کر لیا گیا۔ خبر کی راہ سے تیمور ہندوستان میں داخل ہوا (۱۴۰۸) دلی کے سلطان کو شکست ہوئی۔ تاتاریوں نے دلی کو دکھول کر لوٹا۔ پھر وہی سمرقند بآٹھویں بار تیمور اپنی راجدھانی میں فاتحانہ اذاز سے داخل ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی فتح کی یادگار میں تیمور نے سمرقند میں ایک بہت بڑی مسجد بنوائی۔ سمرقند میں یار لوگ یہ افواہ اڑانے میں حق نہیں تھے کہ چون سو سال کا تیمور اپنی باقی زندگی سمرقند کے محلوں اور باغوں میں گزار دے گا۔ تیمور کے مقرر کیے ہوئے حاکموں کو ایشیا تے کوچک سے نکالا جا رہا تھا۔ سلطان محمد نے مهز کے محلوں کی مدد سے بعد اپر پھر قبضہ کر لیا تھا۔ تیمور تین مہینوں سے زیادہ سمرقند میں نہ رہ سکا۔ ۱۴۹۹ء میں تیمور اپنے شکر سمیت مغربی ایشیا کی طرف چل دیا۔ تبریز کو اپنا فوجی اڈہ بنانے کے بعد تیمور آگے بڑھا۔ جا رجیا کہ پامال کرنے کے بعد تیمور نے ایشیا تے کوچک کی راہ لی سیدوں تک کے سارے شہروں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ ایشیا تے کوچک میں آگے بڑھنے کی جگہ وہ جنوب کی طرف مردا اور شام میں داخل ہو گیا۔ تیمور نے جنوری ۱۴۰۰ء میں حلب کو فتح کرنے کے بعد دمشق کو آگ لگادی۔ دمشق کی ایک مسجد کے گنبد نے تیمور کو بہت زیادہ تباہ کیا۔ اس کے حکم سے اس گنبد کا خاکہ آٹا رکھا۔ تیمور نے سمرقند کی عمارتوں کو دمشقی طرز کے اس گنبد سے آراستہ کیا۔ تیمور کے جانشین اس گنبد کو ہندوستان میں لے گئے۔ تاج محل کا گنبد دمشقی گنبد کا چڑھتے ہے۔ رومن کے گرجوں پر بھی اسی قسم کا گنبد دکھائی دیتا ہے۔ دمشق سے تیمور والپس ہوا۔ بعد اوتباہ کر دیا گیا۔ اسی اثنامیں تیمور اور بایزید میں تلحظ خط و کتابت ہو چکی تھی۔ بایزید اپنے ترکوں کے ساتھ اور تیمور اپنے تاتاریوں کے ہمراہ ایشیا تے کوچک میں


بڑھا۔ انگورہ (القرہ) میں تamarیوں اور ترکوں میں تصادم ہوا۔ بازیزید شکست کھا کر گزر قارہ ہوا۔ یورپ کا فاتح، ایشیا کے فاتح کا مقابلہ نہ کر سکا۔ شکست خودہ بازیزید کا رنج بڑھانے کے لیے تیمور نے جشن کے موقع پر بازیزید کو اپنے ہپلو میں جگد دی۔ بازیزید کے اپنے حرم کی عورت میں نیم بہنہ حالت میں تamarی جرنیلوں کو شراب کے پیالے پیش کر رہی تھیں۔ بازیزید آنکھیں جھکاتے بیٹھا تھا۔ جب اس کا سفر طریقہ تکے دبنے لگا تو اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ اس کی سب سے محبوب بیوی دسپینا ساتی گری کر رہی تھی۔ بازیزید اٹھا۔ دروازے کی طرف اشارہ کیا اور چل دیا۔ تیمور نے دسپینا کو بازیزید کے حوالے کر دیا۔ عثمانی فوج نے مجاگ کر یورپ میں پناہ لی۔ جب تیمور نے عثمانی فوج کا پیچھا کرنے کے لیے قسطنطینیہ کے بازنطینی شہنشاہ سے اس کا سندرومی بیڑہ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک تamarی بھی یورپ کے ساحل تک نہ پہنچ سکا۔ حالانکہ ایشیا تے کوچک میں ایک عثمانی سپاہی بھی نہیں رہا تھا۔ تیمور، یورپ کے دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا۔

انگلستان کے ہزاری چہار ماہ نے تیمور کو مبارک باد بھیجی۔ فرانس کے چارلس ششم نے اسے تحالف پیش کیے تھا اس کے ساتھ کے ہزاری سوم نے تیمور کے دربار میں ایچی بھیجے تیمور جس تیزی سے آیا تھا۔ اسی تیزی سے سفر فرند جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اس کے دربار میں بیس حکومتوں کے سفیر تھے۔ گوبی کے سفیر سے وہ چین کے سوالات سنتا۔ وہ اپنے آباؤ اجداد کے صحرائی میں کو پا کر کے چین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دو لاکھ سپاہی دیوار چین کو گزوئنے کے لیے نکل چکے۔ محتوا می دُور جانے کے بعد تیمور روک گیا۔ اس نے پیچھے مرکر دیکھا۔ سفر فرند کے بڑے بڑے گنبد اور اونچے اونچے مینار آنکھ سے اوچھل ہو چکے تھے۔ سرد ہوا میں تندا اور تیز ہو رہی تھیں۔ سردی بڑھ رہی تھی۔ برف گرنے لگی۔ چاروں طرف سفید می ہی سفیدی۔ سپاہی اور گھوڑے مرنے لگے۔ لیکن تیمور بڑھتا چلا گیا۔ وہ اتر میں خیبر زن ہوا۔ تاکہ بہار کا موسم شروع ہو گئے ہی وہ

اپنا کو جو جاری کر سکے۔ تیمور کا فوجی کو ج اگرچہ باقی تھا، لیکن اس کا اپنا سفر ختم ہو چکا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ شاہ رُخ کو دوبارہ دیکھ سکوں لیکن۔ یہ ناممکن ہے تیمور کے آخری الفاظ تھے۔ مرనے سے پہلے اس نے جہانگیر کے بیٹے پیر محمد کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ شاہ رُخ خراسان میں اور پیر محمد منہر وستان میں تھا۔ تیمور کی وصیت کے مطابق فوج دیوار چین کی طرف بڑھنا چاہتی تھی کہ تیمور کی جانشینی پر تیموری جنیلوں میں اختلاف ہونے لگا۔ تیمور کی موت کے ساتھ ہی اس کی سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ عثمانی ترک اگرچہ تیمور کے پانچوں شکست کا پچکے تھے لیکن وہ جلد سن بجل گئے۔

# اسلامی تائید و تہذیب

باری علیگارخان



مکتبہ کاروان

چھری روڈ 0 لاہور